

# اُردو لازمی

نویں اور دسویں جماعت کے لیے  
(نئے نصاب کے مطابق)

جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو محفوظ ہیں۔

تیار کردہ: سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو سندھ  
منظور کردہ: محکمہ تعلیم مدارس و خواندگی ادارہ، نصاب جائزہ و تحقیق حکومت سندھ  
بے طور واحد رسمی کتاب برائے صوبہ سندھ

مراسلمہ نمبر (ایس او) ای ایڈیشن / کریکیو ۲۰۱۳ء ۲۰۱۸ء فروری



احمد بخش نار بجو

جیہریں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ



\* ناہید اختر



مولفین و مرتبین

\* ڈاکٹر پروفیسر احمد جیلانی \* ڈاکٹر پروفیسر شاہ احمد \* ڈاکٹر عابدہ صدیقی

\* محمد ناظم علی خان ماتلوی \* سید مسیت حسین رضوی \* نعیمة منور



\* پروفیسر ڈاکٹر عتیق احمد جیلانی \* محمد ناظم علی خان ماتلوی \* پروفیسر محمد یاسین شیخ

\* ڈاکٹر شذرہ شر \* ڈاکٹر عابدہ صدیقی \* محمد وسیم مغل

\* ناہید اختر سومرو \* زاہدہ بخش \* عمر فاروق گبول



ڈاکٹر شذرہ شر



پروفیسر \* محمد ناظم علی خان ماتلوی \* سرورق \* ساجدہ یوسف شیخ

کپوزنگ لے آؤٹ: بختیار احمد بھٹو

مطبوعہ: اکیڈمک آفسٹ پر لیں

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ

جامع شورو، سندھ



### قائدِ اعظم نے فرمایا

”پاکستان اپنے نوجوانوں پر فخر کرتا ہے، خصوصاً طلبہ پر، جو ہر ضرورت کے وقت پیش پیش رہے ہیں۔ نوجوانو! تم مستقبل کے معمار ہو، تمھیں نظم و ضبط سے کام لینا ہے اور تعلیم و تربیت حاصل کرنا ہے، تاکہ صبر آزمہ مسائل سے نبٹ سکو، مستقبل کی ذمے داریوں کا بوجھ بھی تمہارے کاندھوں پر ہے، لہذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔“



”نوجوانو! میں تمھیں پاکستان کا معمار سمجھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی باری پر کیا کچھ کر دکھاتے ہو۔ اس طرح رہو کوئی تمھیں گم را نہ کر سکے۔ اپنی صفوں میں اتحاد اور مضبوطی پیدا کرو۔ تمہارا اصل کام کیا ہے؟ اپنی ذات سے وفاداری، اپنے والدین سے وفاداری، اپنے ملک سے وفاداری اور اپنی تعلیم پر پوری توجہ۔“

(۱۳ اپریل ۱۹۴۸ء، اسلامیہ کالج، پشاور)

محترم اساتذہ کرام!  
درستی کتاب برائے جماعت نہم و دہم تعلیمی نصاب ۲۰۰۶ کے عین مطابق لکھی گئی ہے۔  
اس کتاب کا مقصد طلبہ میں دانش اور مہارت پیدا کرنا ہے تاکہ انھیں مطالعے کی عادت ہو  
اور وہ اچھے انسان اور مہذب شہری بن سکیں۔

یہ درستی کتاب اردو ادب کا شاندار نمونہ ہے۔ اس کتاب میں تمام مصنفین کا تعارف  
اور حالاتِ زندگی بھی دیے گئے ہیں۔ جو صرف طلبہ کی معلومات بڑھانے کے لیے ہیں ان  
میں سے امتحان نہ لیا جائے اسی خیال کے مدنظر مشق میں تعارف، حالاتِ زندگی سے کوئی بھی  
سوال نہیں دیا گیا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ طلبہ میں سیکھنے کا روحانی مختلف طریقوں سے  
ہوتا ہے لیکن سکھانے کا سب سے زیادہ فعال طریقہ انھیں ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھنا ہے  
جو کہ متعلقہ تصوّرات کو سمجھنے، ان کی صلاحیتوں مع اقدار کو فروغ دینے میں معاون ثابت  
ہو سکیں۔ چنانچہ حصولِ مقصد کے لیے ہر سبق میں مواد سے متعلق سرگرمیاں شامل کی گئی  
ہیں۔ ضروری ہے کہ بچے اپنی صلاحیتوں اور بنیادی ضرورتوں؛ جیسے: لکھنا، پڑھنا،  
سننا، بولنا اور سمجھنا کی مدد سے ان سرگرمیوں سے مہارت حاصل کریں۔ عین ممکن ہے  
کہ طلبہ متعلقہ مواد کو بروئے کارلاتے ہوئے کتاب میں شامل تصوّرات کی مزید تفہیم کر سکیں۔  
چوں کہ تمام بچے کلیدی تصوّرات و خیالات یک بار نہیں سمجھ سکتے لہذا انھیں مشق کی ضرورت  
ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر سبق کے اختتام پر موضوعی اور معروضی مشقیں رکھی گئی ہیں۔ یہ مشقیں  
بچوں کی فہمی صلاحیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بالخصوص تیار کی گئی ہیں تاکہ وہ کلیدی تصوّرات اور  
ہنر میں مزید نکھار لاسکیں۔

تدریسی عمل شروع کرنے سے قبل آپ اساتذہ اس کتاب کے متن اور اندر ورنی  
صفحات کے ذیلی حاشیے پر موجود ہدایات بے غور پڑھ لیں۔ بہ حیثیت اُستاد یقیناً آپ کے  
پاس اپنے بہت سے خیالات، مشاہدات، تجربات اور معلومات ہوں گی اور لازماً آپ اپنے  
طلبہ اور ان کے ماحول سے زیادہ آگاہ ہوں گے، اس لیے دورانِ تدریس آپ اپنے تناظر  
میں دیگر متعلقہ مثالیں بھی شامل کر لیجیے۔

کتاب کے آخر میں تمام اس باق کی فرہنگ دی گئی ہے جو عین متن کے مطابق ہے۔  
ایک لفظ کے کئی معانی ہیں مگر اس کتاب میں وہی معانی دیے گئے ہیں جو سبق کو سمجھنے میں  
مدد کر سکیں۔  
ضرورت اس امر کی ہے کہ تدریس کے ہر پہلو پر کامل توجہ دیں۔ طلبہ کتاب میں موجود  
سرگرمیوں کو انجام دیں جب کہ آپ کلاس میں ان کے کام کا جائزہ لیجیے اور بھرپور  
حوالہ افزائی کیجیے۔

عملی سرگرمیاں نہ صرف معلومات حاصل کرنے بلکہ مہارت مع اقدار میں معاون  
ثابت ہوں گی اور ان کی لسانی مہارتوں کو مستحکم کرنے میں بھی کام آئیں گی۔  
اُمید کرتے ہیں کہ طلبہ آپ کی تدریسی کاوشوں اور اس کتاب سے بھرپور فائدہ  
حاصل کر سکیں گے۔

مُؤلفین و مرتبین



## فہرست

مصنفوں کی نسبت		
مصنفوں کی نسبت	مصنفوں کی نسبت	مصنفوں کی نسبت
۱	اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	
۲	امید کی خوشی	
۳	قومی ہم دردی	
۴	رشتنا تا	
۵	نظریہ پاکستان	
انسانوی ادب		
۶	اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بھایا	
۷	بورڈی کا کمیٹی	
۸	سینا بادشاہ	
۹	شہید	
خاک/آپ بیتی		
۱۰	نام دیو--مالی	
۱۱	ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈپنسری	
طزوہ مزار		
۱۲	اُذنہ	
سفر نامہ		
۱۳	پچھوڑ ق تاریخ سے	

## مکاتیب

حصہ نکم	عنوان	مکاتیب	حصہ نکم
۱۲	ہنام ہر گوپاں تھے	غالب	۱۳
۱۵	ہنام میر مہدی مجروح	غالب	۱۵
شعراء			
۱۶	حمد	مولانا اسماعیل میرٹھی	۱۱۸
۱۷	نعت	امیر مینائی	۱۲۳
۱۸	برسات کا تماشا	تفیرا کبر آبادی	۱۲۸
۱۹	دنیاۓ اسلام	علام محمد اقبال	۱۳۳
۲۰	سر راہ شہادت	ابوالاثر حفیظ جاندھری	۱۳۸
۲۱	گرمی کی شہادت	میر انیس	۱۴۳
۲۲	جیوے جیوے پاکستان	جیل الدین عالیٰ	۱۴۸
۲۳	کرکٹ اور مشاعرہ	دل اور فگار	۱۵۲
غزلیات			
۲۴	فقیرانہ آئے صدا کر چلے	میر تقی میر	۱۵۷
۲۵	وہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے	خواجہ حیدر علی آتش	۱۶۱
۲۶	ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ ”تو کیا ہے؟“	مرزا غالب	۱۶۵
۲۷	گلتا نہیں ہے جی مرا اجڑے دیار میں	بہادر شاہ ظفر	۱۶۹
۲۸	دعائیں ذکر کیوں ہو مدد عا کا	حرست موبانی	۱۷۱
۲۹	جب تک انساں پاک طبیعت ہی نہیں	جگہ مراد آبادی	۱۷۹
۳۰	ہونوں پہ کھی اُن کے مرانام ہی آئے	ادا جعفری	۱۸۳
فرہنگ			
۱۱۲	غالب	غالب	۱۱۳

لِشَّرِيكِ الْجَنَانِ

## مولانا شبی نعمانی

ولادت: ۱۸۵۷ء وفات: ۱۹۱۳ء



## اخلاقِ نبوی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ

حاصلاتِ تعلیم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) کوئی بات یا بیغام سن کر انھی لفظوں میں دہرا سکیں۔

(۲) ادب پارے کا خلاصہ لکھ سکیں۔ (۳) پانچ سے سات منٹ کی تقریر درست لب و لمحے سے کر سکیں۔

حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ۱۵ برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغازِ وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: ”خدا کی قسم! خدا آپ کو کبھی غم گینہ نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلة رحمی کرتے ہیں، مقربوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔“


امہات المؤمنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں: ”آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو ربرا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرمادیتے تھے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لوڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداد،

محمد شبی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی، امام اعظم ابوحنیفہ، نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ (ہندوستان) میں بیدا ہوئے۔

ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو ”تمغاۓ مجیدی“ عطا کیا۔

مولانا شبی شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالمِ دین اور مؤرخ تھے۔ آپ کی تصنیف میں ”المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولا ناروم، مقالاتِ شبی اور سیرتِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔



ہنسنے اور مسکراتے ہوئے۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باقیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغازِ نبوت سے آخر تک کم از کم ۲۳ برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا: ”آپ خندہ جبیں، نرم ہو، مہربان طبع تھے۔ سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔“ کوئی برا کلمہ منھ سے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ عیب ہو اور تنگ گیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: ”بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو، اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برانہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندر ورنی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باقیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا، چپ سُنا کرتے۔ دوسروں کے منھ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعۃ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے، آشنا ہوتا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔

ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ جو گویا آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پر پورا ہو تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم ہو تھے، سخت مزاج نہ تھے۔ کسی کی توہین رو انہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہارِ لشکر فرماتے تھے۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا، تناول فرماتے اور اس کو بُرا بھلانہ کہتے۔

جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا دیا ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و ممتازت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی غاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے، کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رُخ نہ پھیرتے، جب تک وہ خود منہ نہ ہٹائے۔ مصافحے میں بھی بھی معمول تھا۔ یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے، اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں نہیں نہیں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔

ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے۔ واپس آنے لگتے تو انہوں نے اپنے صاحب زادے قیس بن عائشہ کو ساتھ کر دیا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی اللہ عنہ سے کہا: ”تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔“ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تأمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا کھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔

ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بے نفسِ نفس مہمان داری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود

ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔

عقبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی پینائی میں فرق آ گیا تھا۔ آس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر دور کعت نماز ادا کی۔

ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمتِ اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم کے حلقے میں تشریف فرماتھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو آس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ کل پانچ آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ آس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا: ”یہ شخص بے کہ ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔“ انھوں نے کہا: ”آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔“

کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اُسی کے سامنے اُس کا تذکرہ

نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ و ھوڑا لیں۔

ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اچھا آنے دو۔“ وہ اپنے قبلے کا اچھا آدمی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تجہب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا کے نزدیک سب سے بُرا وہ شخص ہے، جس کی بذریبازی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جُلنا چھوڑ دیں۔“

سلام میں پیش دستی فرماتے۔ جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یک جا بیٹھے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔

(ماخوذ از: ”سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“، جلد دوم)



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) حضرت خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟

(ب) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟

(ج) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟

(د) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟

(ه) حضرت عقبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے آس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟

سوال ۲: درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) حضرت خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں:

(۱) ۱۵ برس (۲) ۲۰ برس

(۳) ۲۵ برس (۴) ۳۰ برس

(ب) سبق "اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" پڑھ کر مجموعی طور پر جذبہ پیدا ہوتا ہے:

(۱) پہلے خود سلام کرنے کا (۲) اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا

(۳) بھوکوں کو کھانا کھلانے کا (۴) زم لججے میں بات کرنے کا

(ج) جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے:

(۱) محبت کی وجہ سے (۲) رشتہ داری کی وجہ سے

(۳) دوستی کی وجہ سے (۴) مرتوت کی وجہ سے

(د) سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا نام تھا:

(۱) قیس (۲) خالد (۳) عمر (۴) ابو قادہ

(ه) "مصافحہ" کرنے کا مطلب ہے:

(۱) سلام کرنا (۲) گلے مانا

(۳) مسکرا کے مانا (۴) ہاتھ ملانا

(و) ابو شعیب رضی اللہ عنہ کے غلام کی بازار میں دکان تھی:

(۱) گوشت کی (۲) سبزی کی

(۳) چلوں کی (۴) کپڑے کی

سوال ۳: درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پُر کیجیے:

(الف) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق..... سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔

(ب) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں ..... نہیں لیا۔

(ج) اپنے نفس سے ..... چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔

(د) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ..... میں پیش دستی فرماتے۔

(ه) ایک دفعہ ..... کے ہاں سے سفارت آئی۔

سوال ۴: اس سبق کا خلاصہ سو الفاظ میں لکھیے۔

سوال ۵: درست بیان پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ ( )

(ب) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے منھ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ( )

(ج) حضرت امام حسنؑ نے حضرت علیؑ سے آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احلاق کے بارے میں پوچھا۔ ( )

(د) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام کرتے۔ ( )

(ه) ایک صاحب خوش بول کر آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ( )


### سرگرمی

طلبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقی حکمے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال کا چارٹ تیار کر کے کلاس میں آؤزیاں کریں۔

\* سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالاتِ زندگی، اعمال، اقوال اور احکام مبارکہ بیان کیے جاتے ہیں۔

ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) یہ سبق پڑھاتے ہوئے سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید پہلوؤں پر روشنی ڈالیے۔ (۲) اسکوں لا بھری ی سے کتابیں منگوا کر طلبہ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلعے کی ترغیب دیجیے۔ (۳) چند کثیر الانتباہی سوالات کے جواب برائے راست سبق میں موجود نہیں۔ یہ سوالات طلبہ میں اعلیٰ ذہنی سطح کی تفہیمی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ لہذا عبارت فہمی کی تدریسی عملی حکمتیں استعمال کرتے ہوئے طلبہ کو آمادہ کیجیے کہ وہ ان سوالات کے جواب کے لیے غور و فکر کریں۔



## سرسید احمد خان

ولادت: ۱۸۱۷ء وفات: ۱۸۹۸ء

سرسید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد مقتنی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کتب میں حاصل کی۔ پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم اٹھارہ سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد مُنصفی کا امتحان پاس کر کے بہ حیثیت مُنصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے نجع کے عہدے تک پہنچ گئے۔

آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار ”سید الاخبار“ سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ ”تہذیب الاخلاق“ نکالا۔ نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔

سرسید ایک بلند پایہ نظر نگار، اخبارنویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو ”جواد الدّولہ“ اور ”عارفِ جنگ“ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو ”سر“ کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں ”آثار الصنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بیکوڑ“ بہت مشہور ہیں۔



نہ دیکھے۔ سورہ میرے بچے سورہ۔ میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سُرور  
میرے بچے سورہ۔ تیراںکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تیری شہرت، تیری لیاقت،  
تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا، آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی۔ تیری ہنسی  
ہمارے اندر میرے گھر کا اجلا ہوگی۔ تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دُور کریں  
گی۔ تیری آواز ہمارے لیے خوش آپندر را گنیاں ہوں گی۔ سورہ میرے بچے سورہ۔  
اے ہماری امیدوں کے پودے سورہ۔ بولو، جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں  
گے تو تم کیا کرو گے۔ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہو گے۔ تم پوچھو گے اور  
ہم کچھ نہ بولیں گے۔ تم روؤ گے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے۔ اے میرے پیارے  
روئے والے! تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے۔ آہ! ہم نہ ہوں  
گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بھاؤ گے۔ اپنی ماں کا محبت بھرا پھرہ، اپنے باپ کی  
نورانی صورت یاد کرو گے۔ آہ! ہم کو یہی رنج ہے کہ اُس وقت ہماری محبت یاد کر کر تم  
رنجیدہ ہو گے۔ سورہ میرے بچے سورہ، سورہ میرے بالے سورہ۔

یہ امید کی خوشیاں ماں کو اُس وقت تھیں جب کہ بچپن گھوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اتنا اتنا کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی۔ آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتشِ محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا۔ پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا۔ رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زده دل سے سنانے لگا اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے

امید کی خوشی

حاصلاتِ تعلم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) جملے کے اجزاء تکمیلی کی تعریف اور تنظیع کر سکیں۔  
 (۲) تحریر کا مرکزی خیال بیان کر سکیں۔ (۳) ادب پارے کا خلاصہ مرکزی خیال کے حوالے سے لکھ سکیں۔ (۴) دیے گئے عنوان پر مضمون لکھ سکیں۔

اے آسمانوں کی روشنی اور اے ناممید دلوں کی تسلی، امید! تیرے ہی شاداب  
اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے۔ تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے۔ تجھی  
سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا  
مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سامنے کوڑھونڈتا ہے۔ وہاں کی ٹھنڈی  
ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی  
ہیں۔ اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں۔ تمام فکریں دل سے دور  
ہوتی ہیں اور دُور دراز زمانے کی خپالی خوشیاں سب آ موجود ہوتی ہیں۔

دیکھ! نادان، بے بس بچہ گھوارے میں سوتا ہے۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گھوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے: سورہ میرے بچے سورہ، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سورہ۔ اے میرے دل کی کونپل سورہ، بڑھ اور پھل پھول، تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے۔ تیری ٹھنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے۔ کوئی کھن گھڑی تیچھ کونہ آوے۔ کوئی مصیبت جو تیرے ماں بای نے بھگتی، تو

بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس مقصوم سینے سے سچی ہم دردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ آہ! ہماری پیاری امید! تو ہی ہے جو مہد سے حد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ دیکھو! وہ بے گناہ قیدی اے اندھیرے کنوئیں میں سات تھے خانوں میں بند ہے۔ اس کا سورج کا ساچکنے والا چہرہ زرد ہے۔ بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔

(ب) دیکھو! نادان، بے بس بچہ گھوارے میں سوتا ہے۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھنے میں لگی ہوئی ہے اور اس گھوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔

سوال ۵: سبق میں سے پانچ تراکیب لفظی تلاش کر کے اُن کے معنی لکھیے۔

سوال ۶: درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشان دہی کیجیے:

- ۱- اسلم نے چائے پی۔ ۲- حامد کتاب پڑھ رہا ہے۔
- ۳- وہ کراچی میں رہتی ہے۔

سوال ۷: ذیل کے جملوں کی تشریح مع حوالہ سیاق و سبق کیجیے:

(الف) دیکھو! وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنوئیں میں سات تھے خانوں میں بند ہے۔ اس کا سورج کا ساچکنے والا چہرہ زرد ہے۔ بے یار و دیار، غیر قوم، غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔

(ب) دیکھو! نادان، بے بس بچہ گھوارے میں سوتا ہے۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھنے میں لگی ہوئی ہے اور اس گھوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے۔

سوال ۵: سبق میں سے پانچ تراکیب لفظی تلاش کر کے اُن کے معنی لکھیے۔

سوال ۶: درج ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف کی نشان دہی کیجیے:

- ۱- اسلم نے چائے پی۔ ۲- حامد کتاب پڑھ رہا ہے۔

- ۳- وہ کراچی میں رہتی ہے۔

سوال ۷: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(۱) طلبہ سبق پڑھ کر اس کا مرکزی خیال تحریر کریں۔

(۲) طلبہ سر سید پر ڈھائی سو الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کو بہ طور صیغہ ادب مضمون کی تعریف سے آگاہ کیجیے۔ (۲) طلبہ کو جملے کے اجزاء ترکیبی مثالوں سے واضح کر کے بتائیے۔ نیز ادب پاروں میں نظم و نثر کا فرق بتائیے۔ (۳) انشا پردازی کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔



(ماخوذ از: مضماین سرستہ)

۱۔ مراد حضرت یوسف علیہ السلام۔



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) مصنف نے ”امید“ کو خوشی کیوں فرار دیا ہے؟

(ب) ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟

(ج) بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟

(د) امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاکھتی ہے؟

(ه) آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہے؟

سوال ۲: اس سبق کا خلاصہ سو الفاظ میں لکھیے۔

سوال ۳: درج ذیل الفاظ تراکیب اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:

محنت کا پھل - آتشِ محبت - درد کی دوا - خوش الحان - بے ریا خیال - کٹھن گھڑی

## قومی ہم دردی

حاصلاتِ تعلّم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں امتیاز کر سکیں اور ترکیب نہیں کر سکیں۔ (۲) اپنی نتیجویا اظہارِ خیال کے لیے موزوں الفاظ، تراکیب اور جملے استعمال کر سکیں۔ (۳) ادب پارے اور مضمون کے بنیادی نکات درج کر سکیں۔

‘ہم دردی’ کا لفظ ‘ہم’ اور ‘درد’ دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ ‘درد’ کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ‘ہم’ کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ پس ‘ہم دردی’ کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ خواہ ارادے سے ہو، خواہ بے ارادہ۔ مگر آج کل کے استعمال میں ہم دردی سے وہ شرکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے، مثلاً: ایک شخص یمار ہے اور دوسرا حمیا مجبت سے اُس کی دوادر و کرتا ہے، تو دوسرے کو پہلے کا ہم درد کہیں گے۔


اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہم دردی کے ذمے دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہم دردی پر مجبور کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اُس ہم دردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہم دردی کا رشتہ بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔



## خواجہ الطاف حسین حاچی

ولادت: ۱۸۳۷ء وفات: ۱۹۱۳ء

الطاف حسین نام، حاچی تخلص اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ ایزد بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ سترہ برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ پھر آپ دہلی چلے گئے، جہاں مرتضیٰ عالم اور نواب مصطفیٰ خان شیفۃ کی صحبت میسراً آئی۔ اس کے بعد لاہور آگئے اور پنجاب بک ڈپ میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور دوستی کا کام کیا۔ اس کام سے حاچی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جن میں شاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حاچی نے ”برکھاڑت، رحم والنصاف، حب وطن اور امید“ کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حاچی نے سر سید کی تحریک پر اپنا مشہور مدرس ”مد و جزر اسلام“ بھی لکھا جو مدرس حاچی کے نام سے مشہور ہوا۔ ”حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیاتِ جاوید“، حاچی کی اہم نشری تصنیفیں ہیں۔



ہم دردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، اُن کے لیے غذا بھم پہنچانا، تابہ مقدور ان کو دشمن کے حملہ سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے سوا عام ہم دردی بھی اُن میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بظنوں کا غول جب کسی کھیت میں اُترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چکتے ہیں، مگر اُن میں سے ایک ایک بظ نوبت بہ نوبت اپنے ہم جنسوں کی چوگسی کرتی ہے، اور جب تک پھر ادیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چیونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو بھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اُسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چیونٹوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔

اس سے دو باقی ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم دردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور کھی گئی ہے۔ کیوں کہ جو خوبیاں قدرت نے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان اُن کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم دردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بہ خود جوش مارتی ہے، کیوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں، جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہیں، اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ ہم دردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے۔ کیوں کہ انسان اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پس اگر انسانوں میں ہم دردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔

ہمارے ہم وطن بھی ہم دردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہیں۔ کنویں بنوانے، پیا و بھانی، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواویں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک

ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، بیمار کی عیادت، میت کی تعریت اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہم دردی ہے، مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔

میوپسل کمیٹیاں، جو سرکار نے جا بہ جا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں، اگر پورا پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں، اُسی کو مدد نظر رکھیں تو یہ بھی ہم دردی کے اچھے نمونے ہیں۔

زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہم دردی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہم دردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو، مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہم دردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے۔

قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے، جس کی ٹہنیاں اُس کے مختلف خاندان ہیں اور اُس کے پتے ہر ایک خاندان کے مردوں عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے، اُس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا، ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنھوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائب ناطہ نہ کیے۔

(ماخوذ از: ”کلیات نشر حآلی“، جلد دوم)



## مشق

سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) ”ہم دردی“ کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟

(ب) ”ہم دردی“ سے کیا مراد ہے؟

(ج) انسان میں اگر ہم دردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہو گا؟

(د) کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پراثر کیا ہے؟

(ه) حیوانات میں ہم دردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی دو مشاہد دیجیے۔

سوال ۲: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) ہم دردی ایک خاصیت ہے:

(۱) قدرتی (۲) مصنوعی

(۳) نمائشی (۴) تجارتی

(ب) اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کحتاج میں:

(۱) پرندے (۲) انسان

(۳) چوپائے (۴) فرشتے

(ج) ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہیں:

(۱) ہم دردی کی (۲) خود غرضی کی

(۳) مجبوری کی (۴) دوستی کی

(د) زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے:

(۱) دوستی کی طرف (۲) ہم دردی کی طرف

(۳) مروّت کی طرف (۴) زندگی کی طرف

(۵) قوم ایک مثال رکھتی ہے:

(۱) درخت کی (۲) زمین کی

(۳) پانی کی (۴) ہوا کی

سوال ۳: درج ذیل خالی جگہوں درست لفظ لکھ کر پُر کیجیے:

(الف) جب تک درخت کی جڑ ہری ہے، اُس کی ..... اور پتے بھی ہرے ہیں۔

(ب) جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں، انسان ان کا زیادہ تر ..... ہے۔

(ج) انسانوں میں ہم دردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانے ..... ہو جائے۔

(د) مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ..... کی طرف کھینچتا ہے۔

(ه) جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا، ٹہنیاں اور پتے سب ..... جائیں گے۔

سوال ۴: درست بیان پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) ”ہم دردی“ کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا ڈکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر

( ) ہوتا ہے۔

( ) ہم دردی ایک مصنوعی خاصیت ہے۔

( ) ہم دردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی۔

( ) ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔

( ) مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہم دردی پھیل جاتی ہے۔

ان جملوں کو غور سے پڑھیے:

۱- عدلیں آیا۔ ۲- نازیہ اچھی بھی ہے۔

۳- کتاب دل چپ ہے۔ ۴- فرخ پڑھ رہا ہے۔

ان چاروں جملوں میں جملہ اور ۴ میں کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے جب کہ جملہ ۱ اور ۳

میں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف خبر ہے۔ لہذا ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو، اُسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہوتی ہے اور وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہے، وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔

سوال ۵: درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشان دہی کیجیے:

- ۱- راشد بیمار ہے۔
- ۲- افشاں مضمون لکھ رہی تھی۔
- ۳- ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں۔
- ۴- وہ مصروف ہے۔

### سرگرمیاں

(۱) اس سبق کے اہم نکات پر مشتمل ایک چارٹ بنائیں۔

(۲) قومی ہم دردی کے موضوع پر استاد کی رومنائی میں تقریری مقابلہ کریں۔


\* مضمون، نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی معین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔

(۱) زیرِ بحث مسئلے کا تعارف (۲) حمایت یا مخالفت میں دلائل (۳) نتیجہ۔ ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) قومی ہم دردی کا جذبہ اجگر کرنے کے لیے طلبہ کو ممتاز سماجی شخصیات کی خدمات سے آگاہ کیجیے۔


(۲) قومی ہم دردی کا جذبہ عام کرنے کے لیے طلبہ کا تقریری مقابلہ کرائیے۔



## مولانا محمد حسین آزاد

ولادت: ۱۸۳۰ء وفات: ۱۹۱۰ء


آپ کا نام محمد حسین، آزاد تخلص، شیخ العلمااء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ۱۸۵۷ء کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے اڑام میں سزاۓ موت ہو گئی۔ آزاد نے بہ مشکل جان، بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے۔ لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آگئے اور حکمۃ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انہیں پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں ”آب حیات، نیرنگِ خیال، دربارِ اکبری، قصصِ ہند، مکاتیب آزاد اور نظم آزاد“ قابل ذکر ہیں۔



میں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف خبر ہے۔ لہذا ایسا جملہ جس میں کوئی خبر ہو، اُسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ کیوں کہ اس میں کسی اسم یا ضمیر کی خبر ہوتی ہے اور وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام بتایا جا رہا ہے، وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔

سوال ۵: درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشان دہی کیجیے:

- ۱- راشد بیمار ہے۔
- ۲- افشاں مضمون لکھ رہی تھی۔
- ۳- ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں۔
- ۴- وہ مصروف ہے۔



### سرگرمیاں

(۱) اس سبق کے اہم نکات پر مشتمل ایک چارٹ بنائیں۔

(۲) قومی ہم دردی کے موضوع پر استاد کی رومنائی میں تقریری مقابلہ کریں۔

\* مضمون، نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی معین موضوع پر اپنے خیالات اور جذبات و احساسات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔

(۱) زیرِ بحث مسئلے کا تعارف (۲) حمایت یا مخالفت میں دلائل (۳) نتیجہ۔ ہر مضمون کے لیے نظم و ضبط، توازن اور تناسب ضروری ہے۔



## رشته ناتا

**حاصلات تعلم:** یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) مبدل اور خبر کا فرق بیان کر سکیں اور جملے کی تقاضی کر سکیں۔  
 (۲) تخلیل کی بلندی اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے چار سوال الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کر سکیں۔

ثابت ہیں وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، چہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔

جوم سے بڑا ہو، اُس کو بڑا سمجھو۔ جو تمہارا بزرگ ہو، اُس کی خدمت کرو، کیوں کہ جب تک تم اُس کی خدمت نہ کرو گے، اُس کے حق سے نہ ادا ہو گے۔ ایسا کوئی شخص ہے جو کوئی کمالِ ذاتی خود بے خود حاصل کر بیٹھا ہو۔ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے، بزرگوں کے فیضِ پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ پس اُس کا شکر یہ تم کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اُس کے شمرے سے تم کو کام یاب کرے۔

اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، خدا تمہارا تم سے خوش ہو گا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اُس کے رہے۔ اُس میں سے ایک لطف یہ بھی ہو گا کہ جب تم بڑے ہو گے تو اُسی طرح تمہارے خرد مہاری خدمت کریں گے۔ پس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔

اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر ہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک، نہ خدا کی جانب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خُدوں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی، وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا، وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا ہو ادا کھائی بھی نہیں دیتا۔

رشته ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اُس کی پیروی کریں اور اُس کی مضبوطی کو قوت دیں۔ کیوں کہ علاوہ خوشنودی خدا کے، دنیا کے کل فوائد اور بہبود، اپنا نیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ مثلاً: اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اُس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ مختلف رشته دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارہ دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہربات میں نزدیکی اور دوری کے رشته ہیں۔ اُن کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔

ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے تو جہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا۔

آج کل ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق

اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے جس نے تھیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اُس معبد کی عبادت اور اطاعت بہر حال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پروش کا ہیں، جن کی بہ دولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ انہوں نے ہمیں پروش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے، ان کے لیے بجالانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور درحقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین دنیا میں باعث راحت و آرام ہیں۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڑ کے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے، وہ صاحبِ اقبال ہوتے ہیں اور جو ان سے برگشته رہتے ہیں، وہ ہمیشہ بداقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو، ان کی مرضی اور خوش نودی کی جستجو کو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے، وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کونہ کہا ہو، لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سرانجام میں دل سے کوشش کرو۔

نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انھیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد کرنا نہیں چاہیے، ان کے سامنے با ادب بیٹھنا چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے

برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاذ نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قربات کے جاری ہوتے ہیں یعنی دھیمال اور نھیمال، دادا دادی، نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیوں کہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں اور چوں کہ ان کا رتبہ اور عقل بہ نسبت ماں باپ کے بھی زیادہ تر پختہ ہے، اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ پچاچپی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں، کیوں کہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے، اُسی کی اولادوہ ہیں۔ تمہاری نام و نری یا بھلانی سے ان کی بھی نام و نری و نیک نامی ہے اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی۔ تمہارا اور اُس کا خون شریک ہے، اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اُس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسا تمہارے باپ کا۔ جیسا کہ اُس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے۔ اس واسطے تم کو اُس کے باب میں بھی وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ۔ پچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اُس کی تعظیم کرو، کیوں کہ اُس کا رشتہ بڑا ہے۔ تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی۔ ہاں اگر کئی پچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضرور ہے۔

پھوپھی اور پھوپھا کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھنا چاہیے۔ مثل مشہور ہے کہ ماں بینی دوزات، پھوپھی بنتیجہ ایک ذات۔ باپ اور پھوپھی ایک باپ کی اولاد ہیں، اس لیے ایک ذات ہیں اور ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ پھوپھی

اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے۔ پس تم کو بھی ویسا ہی اُس کا حق پہچانا چاہیے۔ تم ان کا حق ادا کرو۔ ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔

اسی طرح ماموں ممانی، خالو خالہ، سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں کو خود پرورش کرتے ہیں اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جب بچے ضد کرتے ہیں، ماں باپ تنگ ہو کر ان پر خفا ہوتے ہیں، لیکن وہ انھیں خفگی اور تنبیہ سے بچاتے ہیں اور سب نازُن کے اٹھاتے ہیں۔

تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر۔ جتنا تم سے بڑا ہو، اتنی ہی اُس کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ان کا حق تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو یہ خیال بہت ہوتا ہے۔ ان کا دل بہت نازک ہے۔ ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔

اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوش حال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اُس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اُس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوش حالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے

باہر ہیں، بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کا رہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتے دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔

(ماخوذ از: مقالاتِ مولانا محمد حسین آزاد، جلد دوم)

مرتبہ: آغا محمد باقر



## شق



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) قانونِ ادب سے کیا مراد ہے؟

(ب) دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟

(ج) اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہو گا؟

(د) ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟

(ه) جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہاں نہیں مانتی اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟

سوال ۲: درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) رشتہ ایک پیوند ہے:

(۱) خدائی      (۲) دنیاوی      (۳) لازمی      (۴) مصنوعی

(ب) پنجے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو:

(۱) بہن بھائی کو      (۲) دوستوں کو

(۳) ماں باپ کو      (۴) پڑوسیوں کو

(ج) دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں:

(۱) نظارے      (۲) رشتہ      (۳) احکامات      (۴) مزے

سوال ۵: ”اگر میں وزیر تعلیم ہوتا“ کے زیر عنوان چار سو الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔

جملے کے اجزاء:

جملے کے اصل عنصروں ہیں: ا- مبتداء، ۲- خبر

مبتدا وہ شخص یا شے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔

خبر، جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت ذکر کیا جائے۔

مثال: احمد آیا۔ وہ گیا۔

خبر	مبتداء
آیا	احمد

سوال ۶: درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشان دہی کیجیے:

اکرم گیا۔ بچہ کودا۔ بانو آئی۔ زین رویا۔ ابو آئے

### سرگزی

طلبہ نہیاں اور دوستیاں کے رشتہوں کا چارٹ تیار کر کے کلاس میں آؤ بیان کریں۔

**ہدایات برائے اساتذہ:** (۱) صلةِ رحمی کا مفہوم واضح کیجیے۔ (۲) رشتہوں کے احترام کی ضرورت و اہمیت اجاگر کیجیے۔ (۳) طلبہ کو گروہوں میں تقسیم کیجیے۔ ہر گروہ کو دو ڈپر اگراف ان سے متعلق سوالات کے ساتھ تقویض کیجیے کہ پڑھیں اور سوالات کے جواب تحریر کریں۔



(د) رشتہوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں:

(۱) قانون فلسفہ (۲) قانون شہادت

(۳) قانون کیمیا (۴) قانون ادب

(۵) بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے:

(۱) خدا کی خوش نوی (۲) دنیا کی دولت

(۳) عزت دار ملازمت (۴) دنیا کی نعمتیں

سوال ۳: درست الفاظ لکھ کر خالی جگہیں پر کیجیے:

(الف) تم اپنے ماں باپ سے خود سر ہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے

..... رہے۔

(ب) جب تم ..... ہو گے تو اُسی طرح تمہارے خرد تھماری خدمت کریں گے۔

(ج) جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ..... کے فیض پرورش سے حاصل

ہوتی ہے۔

(د) جس شخص کو بزرگ کی تعلیم کی عادت ہوگی، وہ ..... کی عبادت بھی دل سے

کرے گا۔

(۵) اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ..... کا ہے۔

سوال ۴: درست بیان پر (۱) کاششان لگائیے:

(الف) جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا

پہچانے گا۔

(ب) ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔

(ج) والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔

(د) استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے۔

(۵) استاد نعمتِ علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔



## ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان

ولادت ۱۹۱۲ء وفات ۲۰۰۵ء

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ ناظرہ قرآن گھر پر پڑھا ویں کے انجمن اسلامیہ ہائی اسکول میں ثانوی جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج سے ایم۔ اے اور ناگ پور یونیورسٹی سے پی ائچ ڈی اور ڈی لٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ ۱۹۳۷ء میں پبلک سروس کمیشن پاس کر کے کنگ ایڈورڈ کالج امراؤتی (ہندوستان) میں اردو کے استاد مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ ناگ پور یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیے گئے۔ ۱۹۴۸ء میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو اردو کالج کراچی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر تعینات کیا۔ علامہ آئی آئی قاضی نے آپ کو حیدر آباد سنده یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر کیا۔

ڈاکٹر صاحب ایک بڑے عالم، محقق، مصنف، ماہر لسانیات، ماہر تعلیم اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ کو اردو، ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی علمی اور تصنیفی خدمات کی وجہ سے پاکستان کے مختلف اداروں نے تمغے، ایوارڈ اور سپاس نامے عطا کیے۔ حکومت پاکستان نے ”اقبال اور قرآن“ کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ ”ستارہ امتیاز“ سے نوازا۔ آپ کی تحریر کردہ کتابیں پاکستان کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔



## نظریہ پاکستان

حاصلات تعلم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) روزمرہ کے لحاظ سے غلط فقرے درست کر سکیں۔ (۲) کوئی مضمون اپنے مشاہدے، علم، تجربات اور تجربی کے حوالے سے جامع انداز سے لکھ سکیں۔ (۳) مضمون نگاری سیکھ سکیں۔

مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوه بنایا ہے لیکن جب کفر والحاد اپنا غالباً حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر راجح ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدرؤں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اور نگر زیب، دین کا خادم بنا لیکن اور نگر زیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے میسور

کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انھیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔

اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔

چنان چہ سنہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہوا پکا تھا اس لیے انھیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سرسید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غیرمحت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساسِ نکتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سنہ ۱۸۸۵ء میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہریہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابل ہو گئے۔ نیز انھوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سرسید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی پھر سرسید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سنہ ۱۹۰۶ء میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ حصہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ختم کر دیا اور سنہ ۱۹۱۱ء میں

اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا۔

اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑگی جس میں انگریز کا مقابلہ جمنی سے ہوا اور ترکی نے جمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چوں کہ ترکی کے سلطان کو جاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ لیکن انھوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہو گی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ مخف فریب تھا۔ چنان چہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انھوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انھوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ”شدھی تحریک“ شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے ”ستھن تحریک“ بھی شروع کی۔ پھر سنہ ۱۹۲۸ء میں کانگریس نے جونہر و پورٹ شایع کی اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ بارہ سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انھیں یقین ہو گیا کہ چوں کہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنان چہ سنہ ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن (پاکستان) بنانے کی تجویز پیش

مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا إله إلا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کنسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے بر عکس ذات پات، چھوٹ چھات اور بہ پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوتی تھی۔ چنان چاہنہوں نے اپنی جدا گانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرزِ معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دورِ جدید کے چیزخ کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔

ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدرتوں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد مخصوص ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا کیوں کہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی تزویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔

کی۔ چار سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل  
عہدہ بقول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔  
آخر کار ۲۳ مارچ سنہ ۱۹۴۰ء کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان  
کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست  
قائم کی جائے۔ اس اعلان کو ”قراردادِ پاکستان“ کہتے ہیں جس کی رو سے مسلمانوں  
کی آزادی اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔

یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے۔ دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ طبقی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئیں اور یہ طبقی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی کیوں کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔

قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے:

ہ اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر  
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسول ہاشمی  
اُن کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پرانچمار

پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی۔ جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی لیکن چوں کہ قیامِ پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر تھا، اس لیے حکومتِ برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائدِ اعظم محمد علی جناح کی پر خلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہم کی وجہ سے ۱۴ اگست سنہ ۱۹۴۷ء کو پاکستان معرضِ وجود میں آگیا۔

پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہِ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مُتَّکَّم اور شاندار بناسکتے ہیں۔

نظریہِ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحتی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرننا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قوی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ ہندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاخ و بہبود کی کوشش کرنا نظریہِ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہِ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھانلنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مُتَّکَّم، شاندار اور پُر عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔

## مشق



- سوال: ۱:** درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:
- اف) نظریہِ پاکستان کا مفہوم مختصر آبیان کیجیے۔
  - ب) شاہ ولی اللہ کی تحریک کا مقصد کیا تھا؟
  - ج) سرسیداً حمد خان کا ہندو اور مسلمان قوموں کے بارے میں کیا نظر یہ تھا؟
  - د) کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم ایگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟
  - ه) دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے کوں کوں سے ہیں؟
- سوال: ۲:** ”نظریہِ پاکستان“ کے سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔
- سوال: ۳:** اپنے دوست کو ایک خط لکھیے جس میں بتائیے کہ ہمیں نظریہِ پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
- سوال: ۴:** درج ذیل ڈوست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے۔
- اف) اسلام کی سر بلندی کے لیے کھڑے ہوئے:
- (۱) ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان
  - (۲) حضرت مجدد الف ثانی
  - (۳) مولانا شوکت علی
  - (۴) مولانا محمد علی جوہر
- ب) ہندوؤں نے اردو زبان کے مقابلے میں قائم کی:
- (۱) انگریزی زبان
  - (۲) فارسی زبان
  - (۳) سنسکرت زبان
  - (۴) ہندی زبان

(ج) پہلی گنگ عظیم چھرگئی:

- (۱) ۱۹۱۰ء
- (۲) ۱۹۱۱ء
- (۳) ۱۹۱۲ء
- (۴) ۱۹۱۳ء

(د) نظریہ پاکستان کا مقصد ہے:

- (۱) اسلامی اصولوں کی ترویج کرنا
- (۲) سیاست کرنا
- (۳) اسلامی و فلاحی مملکت بنانا
- (۴) اسلامی اصولوں کا یاد کرنا

(ه) ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے:

- (۱) اپنے لیے
- (۲) دوستوں کے لیے
- (۳) پڑوسیوں کے لیے
- (۴) پاکستان کے لیے

درج ذیل مثالوں پر غور کیجیے:

- ۱ تم ”اچھے بھلے“، پڑھے لکھے آدمی ہو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔
- ۲ وہ ”اچھا خاصا“، امیر آدمی ہے، پھر بھی اپنی غربتی کو روتا رہتا ہے۔
- ۳ دونوں بھائیوں میں بس ”انمیں بیں“، کافرق ہے۔
- ۴ ان فقروں میں واوین کے درمیان الفاظ روزمرہ کی مثالیں ہیں۔

سوال ۵: اب آپ ذیل کے فقروں کو روزمرہ کے مطابق درست کیجیے:

- ۱ لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا پانی دانہ اٹھ گیا ہے۔
- ۲ ارے بھائی! بہت دنوں بعد نظر آئے، کیا چال حال ہے۔
- ۳ بڑی دوستی تھی دنوں میں، لیکن آج کل کچھ بن آن ہے۔

### سرگرمی




(۱) تحریک پاکستان کی اپنی پسندیدہ شخصیت پر سوال الفاظ کا مضمون اپنی کاپی میں لکھیں۔

ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کو مضمون ٹکاری کے بارے میں مفصل سمجھایئے۔
- (۲) روزمرہ کے لحاظ سے غلط فقرے درست کرنے کی مشتمل کاری کرائیے۔





## ڈپٹی نذیر احمد

ولادت: ۱۸۳۱ء وفات: ۱۹۱۲ء

شمسُ العُلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجور (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ بعد میں تعلیم کا شوق انھیں دلی لے آیا۔ یہاں مولوی عبدالائق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی۔ ملازمت کا آغاز ضلع گجرات (بنگاڑ) سے مددِ رس کی حیثیت سے کیا۔ بعد میں ترقی کر کے اسپیکٹر مدارس ہو گئے، پھر تحصیل دار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے۔ اس کے بعد ریاست حیدرآباد پلے گئے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بُسر کی۔ نذیر احمد کوارڈو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے سات ناول لکھے جن میں ”مرأة العروس، قبة الصوح، ابن الوقت، بنات اللعش“ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

## اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بھایا

حاصلات تعلم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) نئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔  
 (۲) روزمرہ اور مجاہروں کا استعمال کر سکیں۔ (۳) مختلف اصنافِ ثمریں امتیاز کر سکیں۔

حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خاں بہت مَدْتَ تک والی اعڈ و رکی سرکار میں مختارِ کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید کر لی تھی۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑھی پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر تھیں چالیس آدمی نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پاکی، بُلھی سواری کو موجود۔

فتح اللہ خاں کی دو بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حُسن آرا۔ جمال آرا نواب اس فندیار خاں کے بیٹی سے بیاہی گئی تھیں۔ حُسن آرا کی نسبت نواب جھگر کے خاندان میں ہوئی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکا تھا۔ اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن (حُسن آرا کی ماں) سے ملنے کے لیے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر نے سے خالی نہیں اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خُدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں۔ حُسن آرا کے مزاج کی افتادائی سی بُری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہتھی میں سب سے



بگاڑھا۔ نہ ماں کا لحاظ، نہ آپا کا ادب، نہ باپ کا ڈر۔ نوکر ہیں کہ آپ نالاں ہیں۔  
لومنڈیاں ہیں کہ الگ پناہ مانگتی ہیں۔ غرض حسن آراسارے گھر کو سر پر اٹھائے رہتی  
تھی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی  
دو گھڑی کو چُپ ہو کر بیٹھ جاتی، کیا ذکر! شاہ زمانی بیگم کو پاکی سے اترے دیرنہ ہوئی تھی  
کہ لگا تار دو تین فریادیں آئیں کہ بیگم صاحب دیکھیے چھوٹی صاحب زادی نے میری  
نئی اوڑھنی لیر لیر کر ڈالی۔ اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے! میرا  
کان خونا خون ہو گیا۔ باور پھی خانے سے مامانے دہائی دی، اچھی، خدا کے لیے کوئی  
ان کو سمجھاتا۔ سالن کی پیتلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں۔

شاہ زمانی بیگم نے آواز دی ”حسنا! یہاں آؤ۔“

خالہ کی آواز پہچان، بارے حسن آرا چلی تو آئی لیکن نہ سلام نہ دعا۔ ہاتھوں میں  
راکھ، پاؤں میں کچھڑ۔ اسی حالت میں دوڑ، خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا ”حسنا تم  
بہت شوئی کرنے لگی ہو۔“

حسن آرائے کہا ”اس سُنبُل چُڑیل نے فریاد کی ہوگی۔“ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے  
نکل، لپک کر سُنبُل کا سر کھسوٹ لیا۔ بہتیر اخالہ ”ایں ایں“ کرتی رہیں، ایک نہ نہیں۔  
شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف خاطب ہو کر بولیں: ”بوسلطانہ، اس لڑکی کے  
لیے تو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو۔“

سلطانہ بیگم ”باجی اماں کیا کروں مہینوں سے استانی کی تلاش میں ہوں کہیں نہ ملتی“،  
شاہ زمانی بیگم: ”اوی بُوا۔ تمھاری بھی کہاوت وہی ہے، ”ڈھنڈو را شہر میں، بچہ  
بغل میں“۔ خود تمھارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہنو لاکھ استانیوں کی ایک  
استانی ہے۔

سلطانہ: مجھ کو آج تک اطلاع نہیں۔ دیکھو، میں آدمی بھیجنی ہوں۔

یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں، ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں۔ دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلااؤ۔

مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں۔ محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوتی۔

مانی جی: تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہیں؟

محمد کامل کی ماں: کوٹھے پڑیں۔

مانی جی: میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی۔

دیانت النساء: بہو صاحب یہیں آجائیں گی۔

تمیزدار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آگیا تھا، کیوں کہ عضر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی بڑی کا تعلیم کرانا منظور ہے۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا۔

اصغری: دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی بڑی کو پڑھاؤ۔ لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب بڑی کو یہاں بھیجنیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔

مانی جی نے تنخواہ کا تونام نہ لیا لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمے داری کرنے کو موجود ہیں۔

اصغری: یہ سب ان کی مہربانی ہے ان کی ریاست کو بھی بات زیبا ہے لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا نگاہ بھوگا نہیں رکھتا۔ بن داموں کے لوٹی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی جو ہو گئی۔ ہر چند کہ نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے مگر اصغری کی سُستہ تقریں کر دنگ ہو گئی اور معدرت کی کہ بی مجھ کو معاف کرنا۔

غرض مانی جی رخصت ہوئیں اور وہاں جا کر کہا: ”بیگم صاحب، استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے۔ پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے۔ سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے۔ ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے۔ لیکن نوکری کرنے والی نہیں۔ تحصیل دار کی بیٹی ہے۔ رئیسِ لاہور کے متار کی بہو۔ گھر میں مانو کر ہے۔ دالان میں چاندنی بیچھی ہے۔ سوزنی گاؤں تکمیل گا ہے۔ اچھی خوش گز ران زندگی بھلا اُن کو نوکری کی کیا پرواہ ہے۔

شاہ زمانی بولیں: ”صح ہے بُوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی۔“

مانی جی: لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشنی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا: ”کیا یہاں آ کر؟“

مانی جی: بھلا بیگم صاحب، جو نوکری کی پروانہیں کرتا، وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ: کیا پھر بڑی کی وہاں جایا کرے گی؟

شاہ زمانی: اس میں قباحت کی کیا بات ہے؟

سلطانہ: خیر حُسن آ را وہیں چلی جایا کرے گی۔

اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔

اصغری: اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے، مگر جو چار حرف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں، ان شاء اللہ ان کے بتانے میں اپنے مقدور بھروسہ کروں گی۔

چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفتی دیے لیں گی۔

اصغری: اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں۔

سلطانہ: استغفیر اللہ! پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منحہ ہے۔ لسم اللہ کی مٹھائی ہے۔

اصغری: ہاں! شروع میں تبرگ کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں۔ سواشرفتی کیا ہوگی بچوں کا منھ میٹھا کرنے کو سیر آدھ سیر مٹھائی کافی ہے۔

یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک قاب بھر کر گلتیاں لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری قاب دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔

غرض دنیاسازی کی باتیں ہو ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں۔

(ماخوذ از: مرأۃ العروس)



## مشق



سوال: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) فتح اللہ خاں کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کے نام بتائیے۔
- (ب) سلطانہ کے نجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟
- (ج) حسن آرا مزان کے خاطسے کیسی تھی؟
- (د) شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟
- (ه) اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا؟

سوال: درج ذیل میں درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

- (الف) فتح اللہ خاں نے اندھوں میں املاک خریدی:
- (۱) سیکڑوں روپے کی (۲) ہزاروں روپے کی
- (۳) لاکھوں روپے کی (۴) اربوں روپے کی
- (ب) شاہ زمانی بیگم اُتریں:
- (۱) پاکی سے (۲) رکشے سے
- (۳) بیکھی سے (۴) گھوڑے سے

(ج) محمد فاضل کی چھوٹی بیٹوں تھیں:

- (۱) کام چور (۲) کم عقل
- (۳) عمر سیدہ (۴) پڑھی لکھی
- (د) سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی:
- (۱) اشرفتی (۲) بریانی (۳) کپڑے (۴) مٹھائی

(ه) دیانت قاب میں بھر لائی:

- (۱) مکتبیاں (۲) اشرفیاں (۳) کھمر (۴) روٹیاں

سوال ۳: درج ذیل کالم "الف"، "کوکام" "ب" سے ملائیے:

الف	ب
جمال آرا اور حسن آرا کا باپ	اصغری
سلطانہ کی بہن	دینات النساء
محمد کامل کی بیوی	حکیم روح اللہ خاں
اصغری کی ملازمہ	فتح اللہ خاں
شاہزادہ زمانی بیگم	شاہزادہ زمانی بیگم

سوال ۴: درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے:

(الف) "دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر نج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوتا تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔"

(ب) "ڈھنڈ و را شہر میں پچ بغل میں"

سوال ۵: درج ذیل الفاظ اور مجاہروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:  
لُّهُوْنَا - دریغ نہ کرنا - شُكْرَة - نالاں - قباحت

### سرگرمیاں

(۱) طلبہ کمرہ جماعت میں یہ سبق ڈرامائی انداز میں پیش کریں۔

(۲) طلبہ "اچھی عادات" کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آؤزیں کریں۔

\* ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر زگاری، کردار زگاری، مکالمہ زگاری اس کے بنیادی عنصر ہیں۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) طلبہ کو ناول زگاری کے بنیادی فنی نکات سے آگاہ کیجیے۔

(۲) اپنی نگرانی میں اس سبق کا ڈراماتیار کرائیے۔

(۳) ناول کے بارے میں دی گئی تعریف کی وضاحت کیجیے۔



## مُنشیٰ پریم چند

ولادت: ۱۸۸۰ء وفات: ۱۹۳۶ء

آپ کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ضلع بخارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد مُنشیٰ عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی۔ جب کہ انگریزی تعلیم بخارس میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ ۱۹۰۸ء میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز ۱۹۰۱ء سے ہوا۔ آپ نے مُنشیٰ دیاز انگم کے رسائل "زمانہ" میں مضامین لکھے۔ پھر افسانہ زگاری اور ناول زگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اوپرین افسانہ زگاروں میں ہوتا ہے۔ "سوڑ وطن"، واردات، بیوہ، زادِ راہ، نر ملا، میدانِ عمل، گئو دان، پریم بنتی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگانِ ہستی، ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل ۲۹ ناول لکھے۔



## بُوڑھی کا کی

حاصلاتِ تعلم: سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) مرکب ناقص اور مرکب تام میں فرق کر سکیں۔  
 (۲) مباحثوں اور مذاکروں میں موضوع کے حق یا مخالفت میں حصہ لے سکیں۔ (۳) کسی نظرپارے کی  
 فکری و فیض خوبیوں کو پیش نظر کر خلاصہ لکھ سکیں۔ (۴) اپنی گفتگو میں احساس، جذبے اور تاثر کے حوالے سے  
 شدت اور زیر و بم کا لحاظ کر سکیں۔

ڈرتی تھی، اس لیے بُوڑھی کا کی پر اس کی تیزی اتنی نہ کھلتی تھی جتنی بدھرام کی نیکی۔  
 بدھرام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا۔ وہ سوچتے کہ اس جاندار کی  
 بے دولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں اور اگر زبانی تسلیم یا تشقی سے  
 صورت حال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انھیں مطلق درفع نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف  
 ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا۔

سارے گھر میں اگر کسی کو کا کی سے محبت تھی تو وہ بدھرام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی  
 تھی۔ لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے ہٹے کی مٹھائی بُوڑھی کا کی کے  
 پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی۔

رات کا وقت تھا۔ بدھرام کے دروازے پر شہنائی نج رہی تھی اور گاؤں کے  
 بچوں کا جنم غیر نگاہِ حیرت سے گانے کی داد دے رہا تھا۔ چار پائیوں پر مہماں لیئے  
 ہوئے نائیوں سے ٹکیاں لگوار ہے تھے۔ بدھرام کے لڑکے سکھرام کا تیک آیا ہے۔  
 یہ اُسی کا جشن ہے۔ گھر میں مستورات گارہی تھیں اور رُوپا مہمانوں کی دعوت کا سامان  
 کرنے میں مصروف تھی۔

بُوڑھی کا کی اپنی اندر ہیری کو ہیری میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لذت آمیز خوش بو  
 انھیں بے تاب کر رہی تھی۔ وہ دل میں سوچتی تھیں شاید مجھے پوریاں نہ ملیں گی۔ اتنی دیر  
 ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا۔

بُوڑھی کا کی کے چشم خیال میں پوریوں کی تصویر ناچنے لگی۔ خوب لال لال  
 پھولی پھولی نرم نرم ہوں گی۔ کچوریوں میں آجوائیں اور الاچھی کی مہک آ رہی ہو گی۔  
 ایک پوری ملتی تو ذرا ہاتھ میں لے کر دیکھتی۔ کیوں نہ چل کر کڑاہ کے سامنے ہی

بیٹھوں۔ پوریاں پچھن پچھن کڑاہ میں تیرتی ہوں گی۔ کڑاہ سے گرما گرم نکل کر کٹھوتی میں رکھی جاتی ہوں گی۔

اس طرح فیصلہ کر کے بوڑھی کا کی اُکڑوں بیٹھ کر، ہاتھوں کے بُل کھسکتی ہوئی بہ مشکل تمام چوکھٹ سے اُتریں اور دھیرے دھیرے رینگتی ہوئی کڑاہ کے پاس جا بیٹھیں۔ رُوپا اس وقت ایک سراسیمگی کی حالت میں تھی۔ اس کمرے میں جاتی، کبھی اُس کمرے میں۔ کبھی کڑاہ کے پاس کبھی کوٹھے پر۔ کسی نے باہر سے آ کر کہا: ”مہاراج ٹھنڈائی مانگ رہے ہیں۔“ ٹھنڈائی دینے لگی۔ اتنے میں پھر کسی نے کہا: ”بھاٹ آیا ہے، اسے کچھ دے دو۔“ بھاٹ کے لیے سدھا نکال رہی تھی کہ ایک تیسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ ابھی کھانا تیار ہونے میں کتنی دیر ہے؟

ذرادھوں مجرا اُتار دو۔ بے چاری اکیلی عورت چاروں طرف دوڑتے دوڑتے حیران ہو رہی تھی۔ جھنچھلاتی تھی، گڑھتی تھی، پرغصہ باہر نکلنے کا موقع نہ پاتا تھا۔ خوف ہوتا تھا کہ کہیں پڑوسنیں یہ نہ کہنے لگیں کہ اتنے ہی میں اُبل پڑیں۔ پیاس سے خود اس کا حل سوکھا جاتا تھا۔ گرمی کے مارے پھنکنی جاتی تھی لیکن اتنی فرصت کہاں کہ ذرا پانی پی لے یا پنکھا لے کر جھلے۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ ذرا نگاہ پلی اور چیزوں کی لُوٹ مچی۔ اس کش مکش کے عالم میں اس نے بوڑھی کا کی کوکڑاہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی۔ غصہ نہ رُک سکا، یہ خیال نہ رہا کہ پڑوسنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دل میں کیا کہیں گی۔ مردانے میں لوگ سُنیں گے تو کیا کہیں گے۔ جیسے مینڈک کچپوے پر جھپٹتا ہے اسی طرح وہ بوڑھی کا کی پر جھپٹی اور انھیں دونوں ہاتھوں سے جھنچھوڑ کر بولی: ”ایسے پیٹ میں آگ لے گے، پسیٹ ہے کہ آگ کا گنڈہ ہے۔ کوٹھری میں بیٹھے کیا دم گھٹتا تھا۔ ابھی

مہمانوں نے نہیں کھایا۔ تب تک صبر نہ ہو سکا۔ آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں۔ گاؤں دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑھیا، بھر پیٹ کھانے کو نہیں پاتی، تب ہی تو اس طرح بولھلاۓ پھرتی ہے۔ اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا۔ ”نام بیچنے پر لگی ہے، ناک کٹوا کے دم لے گی۔ اتنا ٹھوںستی ہے، نہ جانے کہاں بھکسم ہو جاتا ہے۔ بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹھری میں بیٹھو۔ جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمھیں بھی ملے گا۔“

بوڑھی کا کی نے سر نہ اٹھایا۔ نہ روئیں نہ بولیں، چپ چاپ رینگتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چالی گئیں۔

لاڈلی کو کا کی سے بہت اُنس تھا۔ بھولی بھالی، سیدھی لڑکی تھی۔ طفلانہ شوخی اور مسُرّت کی اس میں بُوتک نہ تھی۔ وہ جھنجلا رہی تھی کہ یہ لوگ کا کی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دے دیتے۔ مہمان سب کی سب تھوڑے ہی کھا جائیں گے اور اگر کا کی نے مہمانوں سے پہلے ہی کھالیا تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ کا کی کے پاس جا کر انھیں تشقی دیتیا چاہتی تھی، لیکن ماں کے خوف سے نہ جاتی تھی۔ اس نے اپنے حصے کی پوریاں مُطلق نہ کھائیں۔ اپنی گڑیوں کی پتاری میں بند کر رکھی تھیں۔ وہ یہ پوریاں کا کی کے پاس لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ بوڑھی کا کی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی۔ پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی۔ مجھے خوب پیار کریں گی۔

رات کے گیارہ نجح چکے تھے۔ رُوپا آنگن میں سورہی تھی۔ لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی۔ کا کی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اس نے گڑیوں کی پتاری سامنے ہی رکھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سورہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ صرف

چوھلوں میں آگ چمک رہی تھی۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی۔ مارے خوف کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا۔ لاڈلی کوڈھارس ہوئی۔ کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی نسبت ایک جا گتا ہوا کتنا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ اُس نے پتاری اٹھائی اور بوڑھی کا کی کوڑھری کی طرف چلی۔

”کاکی اٹھو میں پوریاں لائی ہوں۔“ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی۔ چٹ پٹ اٹھ بیٹھیں۔ دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹوٹلا اور اسے گود میں بھالیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دیں۔ کاکی نے پوچھا: ”کیا تمہاری امماں نے دی ہیں؟“ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑیں۔ پانچ منٹ میں پتاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا: ”کاکی پیٹ بھر گیا؟“ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی جس پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح ان چند پوریوں نے کاکی کی اشتها اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا۔ بولیں: ”نہیں! بیٹی جا کے امماں سے اور مانگ لا وے۔“

کاکی نے پتاری کو پھر ٹوٹلا۔ اس میں چند ریزے گرے تھے، انھیں نکال کر کھا گئیں۔ یکاںکی لاڈلی سے بولیں: ”میرا ہاتھ پکڑ کر دہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔“

لاڈلی ان کا منشاء سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انھیں لا کر جھوٹے پتالوں کے پاس بھا دیا اور غریب بھوک کی ماری فائز اعقل بڑھیا پتالوں سے پوریوں کے ٹکڑے چون چون کر کھانے لگی۔

عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں ہے۔ چونکی، چارپائی کے ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اُسے وہاں نہ پا کروہ اٹھ بیٹھی، تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتالوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کا کی پتالوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ روپا کا کلیجاسُن سا ہو گیا۔

روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے! میں کتنی بے رحم ہوں۔ جس کی جاندار سے مجھے دوسروں پے سال کی آمنی ہو رہی ہے، اس کی یہ دُرگت، اور میرے کارن! مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ آج میرے بیٹھے کا تلک تھا، سیکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی، اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سیکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بد دلت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے ناکہ وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔

اُس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کا کی کی طرف چلی۔ آدمی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سچے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجارت ہے تھے، لیکن ان میں کسی کو وہ مَسِّرَت نہ حاصل ہو سکتی تھی جو بوڑھی کا کی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رِقت آمیز لمحے میں کہا:

”کاکی اٹھو! کھانا کھالو۔ مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی۔ اس کا براہمنا مانا، پر ما تما سے دعا کرو کہ میری خط معاون کر دے۔“

بھولے بھالے بچ کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھر کیاں سب بھول جاتا ہے، بوڑھی کا کی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھیں، ان کے ایک ایک روئیں سے بچی دعائیں نکل رہی تھیں اور روپا بیٹھی یہ روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔  
(ماخوذ از: ”پریم چند کے منتخب افسانے“)



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) بوڑھی کا کی نے اپنی ساری جائیداد بدھرام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟

(ب) بدھرام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کا کی سے کیا سلوک کیا؟

(ج) بدھرام کے گھر میں کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟

(د) بوڑھی کا کی بھوک سے بے تاب ہو کر جب کڑاہ کے پاس پہنچی تو روپا نے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

(ه) لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پتاری میں پوریاں کیوں چھپائی تھیں؟

(و) پوریوں کے نکلے چھوپن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کیا حال ہوا؟

(ز) روپا نے بوڑھی کا کی کوکھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟

سوال ۲: اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔

سوال ۳: اس افسانے کی فکری اور فتنی خوبیاں بیان کیجیے۔

سوال ۴: درج ذیل الفاظ اور محاورات اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:

جم غیر - اشتہا - ناکٹوانا - بھنڈارے - نام بچنا - سبز باغ دکھانا

سوال ۵: درج ذیل میں درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) بڑھا پا دو رثا نی ہوا کرتا ہے:

(۱) طفولت کا (۲) بچپن کا (۳) جوانی کا

(ب) بڑھیا کے جوان بیٹھے مر گئے تھے:

(۱) پانچ (۲) چھ (۳) سات (۴) آٹھ

(ج) بدھرام آدمی تھے:

(۱) چالاک (۲) مکار (۳) نیک (۴) بے قوف

(د) روپا سورہی تھی:

(۱) آنگن میں (۲) کمرے میں (۳) کوٹھری میں (۴) برآمدے میں

(ه) بدھرام کی چھوٹی لڑکی تھی:

(۱) من چلی (۲) لاڈلی (۳) ضدی (۴) چنپل


ان جملوں کو غور سے پڑھیے:



۱- اتنی دیر ہو گئی کوئی کھانا لے کر نہیں آیا ۲- لمبے چوڑے وعدے

۳- کیلی عورت ۴- بڑھا پا بچپن کا دو رثا نی ہوتا ہے

۵- سبز باغ



۶- اب پیٹ بھر و کھادانہ بھی مشکل سے ملتا ہے

اوپر دیے گئے جملوں میں کچھ جملے مکمل ہیں۔ ان میں بات بھی پوری ہو رہی ہے اور

مطلوب بھی پورے طور پر واضح ہو رہا ہے۔ لفظوں کے ایسے مجموعے کو جس میں لفظوں

کے درمیان تعلق اور لگاؤ پایا جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جملہ ۱، ۲ اور ۴ اور مرکب تام

کے جملے ہیں۔ اس کے برعکس جملہ ۳، ۲ اور ۵ میں بات پوری نہیں ہو رہی اور

مطلوب بھی پورے طور پر واضح نہیں ہو رہا۔ ایسے لفظوں کے مجموعے کو مرکب ناقص

کہتے ہیں۔

سوال ۶: آپ اس سبق میں سے مرگِ تام اور مرگِ ناقص کی تین تین مثالیں تلاش کر کے لکھئے۔

سوال ۷: درج ذیل پیرا، احساس، جذبے، تاثر اور زیر و بم کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیں:  
”زوپا کو اپنی خود غرضی اور بے انسانی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے!  
میں کتنی بے رحم ہوں۔ جس کی جائیداد سے مجھے دوسرو پے سال کی آمدی ہو رہی ہے، اس  
کی یہ دورگت، اور میرے کارن، آج سیکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے  
کی غلام بنی ہوئی تھی، اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سیکڑوں روپے خرچ کر دیے،  
لیکن جس کی بد دلت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹھ کر کھانا  
نہ دے سکی، محض اس لیے ناکہ وہ بڑھایا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔“

### سرگرمیاں

(۱) عیدِ قرباں اور ہماری ذمے داریوں کے موضوع پر طلبہ کلاس میں تین سے چار منٹ کی تقریب کریں۔

(۲) طلبہ بلا ڈلی کے کردار پر روشی ڈالیں۔

\* افسانہ جس کو Short Story بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد نہ میں ایک مختصر سادہ قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے ویلے سے آیا۔

ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کو افسانے کی بیت اور قصیٰ فکری انداز کے بارے میں بتائیے۔
- (۲) مذکورہ پیرا پڑھنے کے دوران طلبہ کی ضروری رہنمائی کرتے رہیے۔
- (۳) ناول اور افسانے میں فرق بتائیے۔



## ڈاکٹر نبی بخش خان بلوج

ولادت: ۱۹۱۷ء وفات: ۲۰۱۱ء

ڈاکٹر نبی بخش خان بلوج سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگھڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی چھٹے مہینے کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تربیت والدہ اور پچانے کی۔ انھوں نے ایم اے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے پی اچ-ڈی کیا۔

ڈاکٹر صاحب نے قیامِ پاکستان کے بعد علامہ آئی آئی قاضی کی سربراہی میں ”یونیورسٹی آف سندھ“ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ انھوں نے ”اردو سندھی لغت“، اور سندھی اردو لغت، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ نہ صرف ”سندھی بلکہ انگریزی عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو“ کے بھی ماہر تھے۔ سندھ کے اس عظیم فرزند کو، ان کی وصیت کے مطابق یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ آئی آئی۔ قاضی کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ موجودہ کہانی ”سینا بادشاہ“ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہے۔



## سیانا بادشاہ

ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے۔ اس لیے تم میں سے ہر ایک، میرے رُوبہ رُواپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سوکھو دکال لینا۔“  
لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی۔ پھر فرمادا زی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔

جب ساہو کار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تسلی سے زین کھو دی، دھن کی دیگ بانہ نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسرا چوتھی میں کچھ بھی نہیں! ایک میں صرف مٹھی بھر مٹھی پڑی ہے اور دوسری میں دو چار سو کھلی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیکیں ملیں، وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی دو لڑکوں کو جو مٹھی اور ہڈیوں کی دیکیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا: ”اس مٹھی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔“ اس پر پہلے دو بھائیوں نے کہا:

”بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے۔ اب کیا ہو گا؟“

آخر ان کی تکرار برٹھنے لگی اور بات چار معتبر لوگوں تک پہنچی۔ لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے: ”اس میں کوئی راز ہے، لہذا کسی دانا شخص سے انصاف کرو۔“ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے۔ لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے

حاصلات تعلم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) ماورائی کرداروں کے بارے میں جان سکیں۔  
(۲) لوک کہانی سے محفوظ ہو سکیں۔ (۳) افظی اشاروں اور تصویریوں کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔

ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے چار بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا۔ بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے چار دیکیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے۔ کچھ ایک میں، کچھ دوسری میں، اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیکیں جدا جدا، اپنی کھاٹ کے چاروں پایوں تسلی گاڑ دیں۔

جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا:

”بیٹا! دھن دولت ایسی شے ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خراب ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت چار حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چار پائی کے چار پایوں کے نیچے دن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی

پاس انصاف کے لیے گئے۔

بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی تھی سُلھاتے ہوئے بولا:

”تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے اور سونے والا سونا لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے، وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں، وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔“

بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اُس کی شکر گز اری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعا میں دیتے اپنے گھر آپنے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔

(ماخوذ از: لوک کہانیاں: حصہ اول مترجم: ڈاکٹر سعد یوسف آراستا)



سوال: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟

(ب) ساہوکار کے دو بیٹے کس بات پر ختن ناراض ہوئے؟

(ج) چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟

(د) بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟

(ه) اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟

سوال ۲: درج ذیل خالی گھبیں پُر کیجیے:

(الف) ایک ساہوکار کے ..... بیٹے تھے۔

(۱) تین (۲) چار (۳) پانچ (۴) پچھے

(ب) چار دیگریں ..... پاپوں کے نیچے دفن ہیں۔

(ا) کھات کے (۲) چار پائی کے (۳) کری کے (۴) میز کے

(ج) ہر ایک ..... نے کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔

(۱) اتحاد (۲) جھگڑا (۳) قرعہ اندازی (۴) یکجہتی

(د) ایک میں صرف مُسْتَحْيی بھر ..... پڑی ہے۔

(ا) ریت (۲) دال (۳) مٹی (۴) گندم

سوال ۳: ذیل کے کالم ”الف“ کو کالم ”ب“ سے ملا یے:

کالم ”ب“	کالم ”الف“
سونے سے بھری ہے۔	ساہوکار نے اپنی ملکیت
باپ کی زمین سنبھالے۔	دوسری دیگ
پیار محبت سے رہنے لگے۔	جسے مٹی کی دیگ ملی وہ
چوپائے مال کا مالک ہے۔	چاروں بھائی آپس میں
بیٹوں میں تقسیم کر دی۔	جسے ہڈیاں ملیں وہ

سوال ۴: دیے ہوئے لفظی اشاروں کی مدد سے واقعہ مکمل کیجیے:

سبکنگین، غلام، شکار، ہرن کا پچھے، پیچھے دیکھنا، ہرنی، رحم، چھوڑنا، خواب، بزرگ، سلطنت، موت، انتخاب، تخت

سوال ۵: درج ذیل درست بیانات کے آگے (✓) کا نشان لگائیے:

- ( ) ساہو کارنے سکرات کے عالم میں بیٹوں کو بلایا۔
- ( ) ساہو کارنے ساری ملکیت دو دیگوں میں ڈالی۔
- ( ) چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی۔
- ( ) بادشاہ نادان تھا۔
- ( ) بات چار معتبر لوگوں تک پہنچی۔

## میرزا ادیب

ولادت: ۱۹۱۶ء وفات: ۱۹۹۹ء



میرزا ادیب کا نام میرزا دلاور حسین علی، قلمی نام میرزا ادیب ہے۔ والد کا نام میرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے بی۔ اے۔ آنرز کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا۔ اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ”ساقی“، میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسائل ”ادبی دنیا“ میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ”ادب لطیف“ کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں اخیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب ”صحرا نورد کے خطوط“ بھی ہے۔

”جنگل، کمبل، خاک نشیں، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشه میرے سنگ، فن کار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین اور پس پردا فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جان“ آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔


### سرگرمیاں

- (۱) طلبہ کسی بھی اخبار یا رسائل سے لوک کہانی لے کر اپنی ڈائری میں چپاں کریں۔
- (۲) مختلف رسائلوں سے تصاویر وغیرہ کی مدد سے کہانی لکھیں۔

\* لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی، لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں، تحریری شکل کی بجائے سینہ در سینہ و سری نسل تک پہنچتی ہیں۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) کہانی لکھنے اور کہانی سنانے میں بچوں کی مدد کیجیے۔
- (۲) لوک کہانی ڈرامائی انداز میں بچوں کو سنائیے۔



## شہید

حاصلاتِ تعلّم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) مکالمہ لکھ سکیں۔ (۲) نئے الفاظ پر اعراب لگا سکیں۔  
 (۳) نئے الفاظ جملوں میں استعمال کر سکیں۔

زمانہ: ۶ ستمبر ۱۹۶۶ء

مقام: شہرِ صور کی ایک نواحی بستی

جائے وقوع: ایک دو منزلہ مکان کا نچلا کمرہ

وقت: شام

کردار: رضیہ (گیارہ بارہ سال کی ایک لڑکی)، ماں، باپ، شاداں اور ایک سایر۔

منظر: کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ستمبر ۱۹۶۵ء کی بھارتی بم باری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے اور اب گھروالے بھی اس کی آرائش اور رکھار کھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کمرے میں مختصر سامان ہے۔ وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ ایک میز پر دو گل دان پھولوں سے یک سرخالی پڑے ہیں۔ چائے کی ٹرے میں دو تین خالی پیالیاں اور ایک پلیٹ پڑی ہے۔ دیوار پر جاوید کی ایک فٹ سے کچھ کم چوڑی تصویر کے رکنیں فریم پر ایک سنہری ہار پڑا ہے۔

رضیہ میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز سے بیٹھی ہے کہ اس کا منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے۔ بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو حلقتے میں لے رکھا ہے۔ اس کا

جسم مسلسل کانپ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے سسکیاں بھر رہی ہے۔  
 صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ چالیس کے گل بھگ عمر، اداں چہرہ،  
 غم ناک آنکھیں۔ وہ بیٹی پر آنکھیں جمائے آگے بڑھتی ہے۔ اس کے پاس آ کر، جھک کر  
 آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ رضیہ کی کپکپا ہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔  
 ماں: رضیہ! نہ بیٹی نہ، رومت۔

رضیہ: امی۔ اممی

ماں: اُٹھ بیٹھو بیٹی، میری رانی اٹھو۔ (اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھ دیتی ہے)  
 اٹھ بیٹھو رضیہ! (رضیہ اٹھنے لگتی ہے۔ بہ دستور سسکیاں بھر رہی ہے۔  
 آنکھیں سونج رہی ہیں۔ اٹھ کر، نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے)  
 ماں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ رضیہ لمبھ بھر کے لیے ماں کو دیکھتی  
 ہے، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر، روتنی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہے۔  
 ماں: بیٹی! بس اب چپ ہو جا۔ (رضیہ باہر جانے لگتی ہے۔ ماں غم گین نگاہوں سے  
 اسے دیکھتی رہتی ہے)  
 اتنے میں باپ صحن کے دروازے سے اندر آتا ہے۔ ادھیر عمر کا آدمی آنکھوں پر  
 عینک، ہاتھ میں چھڑی، گرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس، چہرہ افسردہ مگر افسردگی  
 پر قابو پائے ہوئے۔

باپ: فاطمہ!

ماں: (ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے۔ شوہر کی طرف دیکھتی ہے) آپ کہاں چلے گئے  
 تھے؟

باپ: کہیں نہیں، یہیں تھا۔ رضیہ کہاں ہے؟

ماں: میں اندر آئی تو میز پر سر کھر دوڑی تھی۔

باپ: پچی ہے نا، صبر آتے آتے گا۔

ماں: اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے۔

باپ: (تصویر کی طرف دیکھ کر) یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ (آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے۔)

ماں: رضیہ نے۔ بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی۔ اس کی تصویر..... (فقرہ پورا نہیں کر پاتی۔ دوپٹے کے بلپوسے آنسو پوچھنے لگتی ہے)

باپ: یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے!

ماں: تصویر اٹھا کر کہیں چھپانے دوں اسے۔ (تصویر اٹھانے لگتی ہے کہ رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی طرف دیکھتی ہے جو اشارے سے تصویر کو وہیں رہنے دینے کے لیے کہتا ہے)

رضیہ آگے بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو ترتیب دے کر اسے درست کرتی ہے۔

ماں اور باپ دم بخودا سے دیکھتے رہتے ہیں۔

باپ: تم نے پرسوں کہا تھا، ٹافیاں لیتا آؤں۔ چلو، جو تمھیں اچھی لگیں، لے لینا۔ رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔

ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے ”اُف میرے اللہ“! (صحن کے دروازہ سے شاداں کی آواز آتی ہے۔) رضیہ ارضیہ!

ماں مُڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے: ”آ جاؤ شاداں، میں یہاں ہوں۔“

شاداں، ماں کی ہم عمر، نہستی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ مگر فالٹہ اور تصویر پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی اداں ہو جاتی ہے۔

شاداں: ”کیا بات ہے بہن، آج دن بھراو پر نہیں آئیں۔ میں تو سمجھتی تھی آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو۔ اتنی خاموشی تھی تمھارے ہاں۔“

ماں: ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر ہی میں رہے سارا دن۔

شاداں: کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمھاری نہ رضیہ کی۔

ماں: کیا بتاؤں بہن!

شاداں: خیر تو ہے! کیا بات تھی؟

ماں: آج جاوید کی چوبیسویں سال گرہ ہوئی۔

شاداں: ۶۰ تبرا کو؟

ماں: یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے اور اسی دن... (شدّتِ احساس سے خاموش ہو جاتی ہے)

یہی دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی۔ میری رضیہ نے گھر میں رنگارنگ جھنڈیاں لگائی تھیں۔ سب عزیز، ہم سائے، اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چھل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سامان لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کو

رضیہ: معلوم ہے آج کون سادن ہے؟  
 جاوید: ۶ ستمبر! میری سالگرہ کا دن۔  
 جاوید: تم دیکھنیں رہیں مجھے۔  
 رضیہ: ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔  
 جاوید: وہ ہماریں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔  
 رضیہ: دیکھ رہے ہیں نا! اپنی تصویر کے گرد۔  
 جاوید: ہاں۔  
 رضیہ: میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہمارا آپ کے گلے میں ڈالوں.....  
 مگر آپ چلے گئے۔  
 جاوید: اسی لیے تو آیا ہوں۔  
 رضیہ: کس لیے؟  
 جاوید: وہ ہمارم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔  
 رضیہ: اچھا؟  
 جاوید: کیوں نہیں!  
 رضیہ: تو اتاروں ہار؟ (ہارفضا میں لہراتا ہے)  
 رضیہ: اوہ بھائی جان!  
 جاوید: اب تو خوش ہونا؟  
 رضیہ: پسند ہے یہ ہمارا آپ کو؟  
 جاوید: میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا۔ یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو گوندھ کر

تھے دے رہے تھے۔ رضیہ نے خود پیسے جمع کر کے جو ہار خریدا تھا، وہ الماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی۔  
 (ماں رُک گئی) دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے روکا تو کہنے لگا: ”ماں! وطن نے مجھے پکارا ہے۔  
 اب میں کسی اور کام کے لینے ہیں رُک سکتا۔“  
 شاداں: اُسی وقت چلا گیا؟  
 ماں: اُسی لمحے۔ بہن کہتی رہ گئی: ”بھائی جان! گلے میں ہار ڈالو والو“۔ مگر بولا: ”واپس آ کر ہی ہار گلے میں ڈالوں گا رضیہ“۔ اور چلا گیا۔ (روشنی مدھم ہو چکی ہے۔  
 صحن کے دروازے سے ایک سایہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ یکا یک رضیہ کی آوازا بھرتی ہے)  
 رضیہ: بھائی جان، آپ!  
 جاوید: رضیہ!  
 رضیہ: بھائی جان! آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے آپ؟  
 جاوید: یہاں، وہاں، ہر جگہ، ہر مقام پر، کہاں نہیں تھا میں۔  
 رضیہ: آپ تو میدانِ جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے۔ ابًا جان کہتے تھے انھوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا۔ اور بھائی جان! آپ بھائی جان ہیں نا؟  
 جاوید: تم دیکھنیں رہیں مجھے؟  
 رضیہ: ہائے! ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔  
 جاوید: مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہو گی۔

بنایا گیا ہے۔ کتنا پیارا، کتنا خوب صورت ہے یہ ہاڑ!

رضیہ: مگر بھائی جان! آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟

جاوید: مجھے جانا ہے رضیہ!

رضیہ: نہیں بھائی جان!

جاوید: دیکھو! میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے۔

رضیہ: کیوں جانا ہے آپ کو؟

جاوید: مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا، تمہارے آس پاس۔ صبح کی روشنی میں، دو بھر کی دھوپ میں، رات کے اندر ہیوں میں، ہر وقت تمہارے قریب۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتیں مگر میں تمھیں دیکھا کرتا ہوں۔

(سایہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، پیچھے ہوتا جاتا ہے)

رضیہ کی ”بھائی جان! بھائی جان!“ کہتی آواز بڑھنے لگتی ہے۔

(باپ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔)

باپ: کیا ہوا رضیہ! کیا ہوا بیٹی!

رضیہ: بھائی جان ابھی یہیں تھے، یہیں تھے۔ میں نے ان کے گلے میں ہارڈ الٹھا۔

باپ: بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں!

ماں اور شاداں بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حیرت سے شاداں پوچھتی ہے: ”کیا معاملہ ہے؟“

باپ: کہتی ہے ابھی بھائی جان آئے تھے۔ میں نے ان کے گلے میں ہارڈ الٹا ہے۔

شاداں: ہار تو وہ پڑا ہے بچی! شاداں آگے بڑھ کر ہاراٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔

چیخ مار کر ہاتھ ہٹالیتی ہے۔ سب یک دم کہتے ہیں: ”کیا ہوا؟“

شاداں: لہو، لہو، ہار پر لہو۔ چیخ لہو!

(ماخوذ از: مٹی کا دیا)



## مشق



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟

(ب) جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟

(ج) رضیہ کیوں رورہی تھی؟

(د) سالگردہ کے موقع پر جاوید کیا حکم ملا تھا؟

(ه) رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملہ ادا کیے؟

(و) رضیہ نے ساید دیکھ کر کس کا نام لیا؟

(ز) شاداں نے ہار کو اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟

سوال ۲: درج ذیل الفاظ کے بھلنے بنائیے:

آرایش۔ گپکا پاہٹ۔ سعادت۔ جائے تو قوع۔ مدھم۔ شفق۔ دم بخود۔ رکھ رکھا۔

سوال ۳: جاوید شہید کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔

سوال ۴: حب وطن کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجیے۔

سوال ۵: میرزا دیوب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟


سوال ۶: درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے:

لہو۔ غم گین۔ افرادہ۔ اختیار۔ مقام

- (۱) یومِ دفاع کے موقع پر شہیدان وطن کے موضوع پر تین سے چار منٹ تک کی تقریر کریں۔  
 (۲) نشانِ حیر پانے والے شہدا کی تصاویر کا چارٹ بنائیے۔ اگر آپ نے اس سبق سے ملتا جلتا کوئی واقعہ سنایا پڑھا ہو تو بیان کریں۔

## مولوی عبدالحق

ولادت: ۱۹۶۱ء وفات: ۱۸۷۰ء



مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ (ہندوستان) کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پہلے فیروز پور اور پھر علی گڑھ میں حاصل کی۔ علی گڑھ ہی سے بی۔ اے کیا۔ علمی خدمات کے صلے میں الل آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈی۔ لیٹ کی اعزازی ڈگریاں ملیں۔ آپ کچھ عرصہ حیدر آباد کدن میں بھی رہے اور تعلیم کے ساتھ اردو کے لیے مختلف خدمات انجام دیں۔ انہیں ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ پھر دہلی میں بھی اسی عہدے پر فائز رہ کر کام کیا۔ تقسم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے۔ یہاں آ کر انہیں ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ پہلے اس کے سیکریٹری اور بعد میں صدر بنے۔ انتقال کے وقت تک صدر کے عہدے پر خدمات سرانجام دیتے رہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ اردو کالج کراچی میں ہے۔ مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے صلے میں قوم نے آپ کو ”باباۓ اردو“ کا لقب دیا۔ ”لغت، قواعد، تحقیق، تدوین اور تبصرے“ کے حوالے سے اُن کی متعدد کتابیں جچپ چکی ہیں۔ شخصیت نگاری پر ”چند ہم عصر“ اُن کی مشہور تصنیف ہے۔ اسی تصنیف سے یہ خاکہ لیا گیا ہے۔

\* ڈرامائونی لفظ ”ڈراؤ“ (Drao) سے مشتق ہے جس کے معنی ”عمل یا اداکاری“ یادوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈراما ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اٹھ پڑیں کی جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ڈراما ایک نقاشی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کی جاتی ہے۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کے لگائے گئے اعراب اچھی طرح سے چیک کیجیے اور غلطیوں کی اصلاح کیجیے۔  
 (۲) طلبہ کو ڈرامے کے بارے میں تفصیل بتائیے۔  
 (۳) بچوں سے بنائے ہوئے جملوں کی اصلاح کیجیے۔



## نام دیو--مای

حاصلات تعلم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) مختلف اصناف نثر میں امتیاز کر سکیں۔ (۲) اشاروں کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔ (۳) کسی بھی موضوع پر درست لب و لبھے اور تنفیض سے ۳-۴ منٹ تک تقریر کر سکیں۔ (۴) خاک زگاری کے بارے میں جان سکیں۔

نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی، اور نگ آباد (حیدر آباد دکن) کے باعث میں مالی تھا۔ مقبرے کا باعث میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باعث کے احاطے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام، نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی۔ اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً: کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رُخ سے پودے کو مُڑ مُڑ کر دیکھا۔ پھر اُٹھے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی۔

اب مجھے اس سے دل چھپی ہونے لگی۔ یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگر رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی

طرح ان کی پرورش کرتا۔ ان کو سبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چھپے چھپے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ بازار سے دوا میں لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہم درد اور نیک دل ڈاکٹرا پنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچالیتا اور جب تک وہ تن درست نہ ہو جاتا اسے چھین نہ آتا۔

بانغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بُوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ وہ خود بھی صاف سترارہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چجن کو بھی رکھتا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھونس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ غرض سارے چجن کو آئینہ بنارکھا تھا۔

بانگ کے داروغہ (عبدالریم خان) خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے۔ ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا سائے میں جائیٹے۔ لیکن نام دیو کو بھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ اپنے کام میں لگا رہتا۔ نہ ستائیش کی تمنانہ صلے کی پروا۔

ایک سال بارش بہت کم ہوئی۔ کنوؤں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ بانگ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ مر جھائے ہوئے

تھے۔ لیکن نام دیو کا چجن ہر ابھر اتحا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھٹا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلل اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھوڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیں کہ آدھا پانی اور آدمی کچھڑ ہوتی تھی لیکن بھی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔

میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہناٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پونے میں کوئی انعام کا مُستحق نہیں ہوتا۔

جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اور نگ آباد کی خوش گوار آب وہا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن (نواب سراج یار جنگ بہادر) ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوقِ باغ بانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مددت سے ویران اور سُنسان پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بد دلت سر سبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کو آدمی پڑھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدر دان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ کئی کئی نگران کار اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فتن باغ بانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا۔ البتہ کام کی دُصْن تھی۔ کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔

ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یوڑش ہوئی۔ سب مالی بھاگ

بھاگ کر جھپٹ گئے۔ نام دیوکام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضاں کے سر پر کھیل رہی ہے۔ کھیوں کا غصب ناک، حملہ اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا۔ اسی میں جان دے دی۔

وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی سماط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخ کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔

جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ”ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان، انسان بتتا ہے۔“ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتا ہو گی تو خدا پوچھئے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں دیجت کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا؟ اور خلقُ اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا؟ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیونیک تھا اور بڑا بھی۔

(ماخوذ از: ”چند ہم عصر“)



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) نام دیوکس باغ میں مالی تھا؟
- (ب) مُصِّف کو نام دیوکی کوں سی حرکتوں پر تجھب ہوتا تھا؟
- (ج) اس سبق میں نام دیو مالی کی کون کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟
- (د) پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو نے کیا کیا؟
- (ه) نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟

سوال ۲: درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

- (الف) نام دیو تھا ایک:

- (۱) مالی      (۲) ڈرائیور      (۳) چوکی دار      (۴) خانہ مال
- (ب) ڈاکٹر صاحب کو آدمی پر کھنے میں بھی تھا:

- (۱) کمال      (۲) اندازہ      (۳) خیال      (۴) جمال
- (ج) ”نام دیو نے سارے چین کو آئیہ بنارکھا تھا۔“ اس جملے میں آئیہ بنانے کا مطلب ہے:  
 (۱) خوب صورت بنادیا      (۲) رُگلوں سے سجادیا  
 (۳) صاف سترہ کر دیا      (۴) نرم و نازک کر دیا

- (د) ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر ہوتی ہے:

- (۱) ناراض      (۲) خوش      (۳) افرادہ      (۴) مول

- (ه) نام دیو غریب تھا اور تنخواہ بھی تھی:

- (۱) زیادہ      (۲) کم

- (۳) بہت زیادہ      (۴) بہت کم

سوال: درج ذیل خالی جگہ میں درست الفاظ سے پُر کیجیے:

(الف) ہر شخص میں قدرت نے کوئی نکوئی رکھی ہے۔

(ب) گدلا پانی پودوں کے حق میں ..... تھا۔

(ج) ڈاکٹر صاحب شاہی باغ کو حقیقت میں ..... بنانا چاہتے تھے۔

(د) باغ کے داروغہ خود بھی بڑے کارگزار اور ..... شخص ہیں۔

(ه) ایک سال بارش بہت ..... ہوئی۔

سوال: درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے:

(الف) ”کام سے سچا لگا و تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔“

(ب) ”اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔“

(ج) ”ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس

صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔“

سوال: دیے ہوئے لفظی اشاروں سے کہانی مکمل کیجیے:

شخص، پیٹ میں درد، حکیم، برداشت سے باہر، غذا، چیک کرنا، پوچھنا، جلی ہوئی روٹی، آنکھیں، دوا، علاج، شرمندگی، آئندہ، نتیجہ۔

### سرگرمی


طلبه شجر کاری کی اہمیت پر تقریری مقابله کریں۔

\* خاک کے ایک سوناچی مضمون ہے جس میں کسی شخصیت کے اہم اور منفرد پہلو اس طرح اجاگر کیے جاتے ہیں کہ اس شخصیت کی جیتنی جاگتی تصویر پڑھنے والے کے ذہن میں پیدا ہو جائے۔

**ہدایات برائے اسناد:**

(۱) ماحول کو آسودگی سے پاک رکھنے کے لیے شجر کاری کی اہمیت واضح کیجیے۔

(۲) خاک نگاری کی مذکورہ تعریف کی روشنی میں طلبہ کو اس خاک کی خوبیاں سمجھائیے۔




## قدرت اللہ شہاب

ولادت: ۱۹۱۴ء وفات: ۱۹۸۶ء

پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانش ور تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکریٹری جزل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنز کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جزل غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بہ طور پرائیویٹ سیکریٹری رہے۔ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ پاکستان کی ادبی تنظیم ”رائٹرز گلڈ“ کے بانی اور ”انجمن ترقی اردو“ پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔

”شہاب نامہ“ آپ کی ”آپ بیتی“ ہے، جس میں اپنے بھپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراض میں حکومت پاکستان نے آپ کو ”ستارہ پاکستان“ کے تمحنے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں ”یاغدا، نفسانے، ماں جی اور سرخ فیتیہ“، مقبول کتابیں ہیں۔



## ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری

**حاصلاتِ تعلم:** یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) روزمرہ زندگی کے تجربات یا واقعات کے حوالے سے یا دو اشتیا اتری لکھ سکیں۔ (۲) ادبی، صفاتی، دفتری اور قانونی تحریر میں فرقہ کر سکیں۔ (۳) صحت و صفائی کے بنیادی اصولوں کی پاس داری کے لیے کسی اخبار یا ذہنے دار افسر خط تحریر کر سکیں۔

ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پُر فضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بغلانظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹا دو گھنٹا یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بغلانظر پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بغلانظر ہو۔ لیکن چوکی دار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ ۱۹۵۰ء کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں کر گر پڑی؟ چوکی دار نے سادہ لوچ سے جواب دیا کہ صاحب! اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی! اس ڈاک بغل میں چینی کی چند پرچ پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں Johnson & Johnson, London, 1854 درج تھا۔ چینی کے بنے ہوئے یہ ظروف ایک سو برس پرانے تھے۔ لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بغلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔

ڈاک بغلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپنسری یاد آگئی، جو ایک نہایت دُور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دُور دراز دیہات میں اکیلے گھونمنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھوں ناظروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو سے دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے تر پچھے تراویوں کی وجہ سے کسی قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ خیر، اس دُور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک اصطبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کر سی پر اکڑوں بیٹھتے اور اپنے گھنٹوں پر پر چیاں رکھے نسخہ لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔

”کیا مرض ہے؟“ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔

مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سُرعت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیوں کہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوامانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلوں اور سفید بُش ثرش کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک نیچ پر بھالیا، جس پر ان کا ہٹھ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔

جب مریضوں کا جموم ختم ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔  
 ”ڈاکٹر صاحب!“ میں نے کہا: ”میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔  
 مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپی کمشنرگ کیا ہوں۔“  
 ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اٹا رلیں اور عینک کے خول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انھیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو وہ پھر کرسی پر آ کر ٹوں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھلنے پر کھ کے غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انھیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدھضمی کا علاج تجویز فرماتے۔ لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے چونوں کا راز فاش کر دیا۔

ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیر وانی پہنچے اور ہاتھ میں اسٹیچن سکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انھوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوش نودی کا اظہار فرمایا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وضع داری سے ڈپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ننگپر آیوڈین، سوڈا بائی کارب، اسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باہی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے۔ لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے اخیر میں یا بعض اوقات اگلے سال

موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کی ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی بُرا اثر نہیں پڑتا تھا۔ کیوں کہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں، مریض بہ حال آتے ہی رہتے تھے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنے رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوش خبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔

ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے نو برس سے مسیحائی فرمار ہے تھے۔ انھیں فخر تھا کہ اس دوران میں یا کے مریضوں میں ۵۷ فیصد، پیچیش کے مریضوں میں ۵۰ فیصد اور خارش کے امراض میں ۲۵ فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈپنسری کا آخری معائنہ ۱۹۳۱ء میں ہوا تھا۔

ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا ”ان ڈوروارڈ“ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھیں باندھی جاتی تھی، کیوں کہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے، جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔

معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزیرز بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی المبدیر یہ عرض کیا:

”دنیاۓ طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزون ترقی پر ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھیں کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیوں کہ وارڈ میں بھیں باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گور بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور

مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔“

چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈپنسری کو دیکھنے گیا، تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھیں تو بے دستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزیرِ زمکن کے جس ورق پر میرے پہلے معائنه کی رائے درج تھی، وہ غائب تھا۔

(ماخوذ از: ”شہاب نامہ“)



سوال۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(اف) چوکی دار نے ڈاک بنگلہ کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی؟

(ب) مُصَّفَ نے دیہات میں گھونمنے کے شوق کی کیا وجہ بیان کی ہے؟

(ج) مُصَّفَ کو گاؤں میں جو صبل نظر آیا، وہ دراصل کیا تھا؟

(د) مُصَّفَ نے اسپتال کے ”انڈرووارڈ“ کو کیسا پایا تھا؟

(ه) گاؤں کے نمبردار کے بتانے پر ڈاکٹر صاحب کا کیا عمل تھا؟

(و) ڈاکٹر صاحب کس علیے میں مریضوں کا معائنه کر رہے تھے؟

سوال۲: درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔

خندقہشانی — حکمت — دورافتادہ — سُرعت

خوشنودی — فی البدیہہ

سوال۳: درست جواب پر (✓) کا شانan لگائیے:

(الف) ڈاک بنگلہ کی رعایت سے یاد آگئی:

(۱) ایک ڈپنسری (۲) ایک عمارت

(۳) ایک مسجد (۴) ایک گاڑی

(ب) مُصَّفَ کی وضع قطع میں کوئی علامت موجود نہیں تھی:

(۱) ڈپنسری (۲) ڈپنسری ڈاکٹریکٹری

(۳) ڈپنسری ڈاکٹریکٹری کی

(ج) آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے:

(۱) پھر کی (۲) انسان کی

(۳) حیوان کی (۴) فرشتے کی

(د) جو صبل نظر آیا وہ دراصل تھا:

(۱) ڈاک بنگلہ (۲) ڈاک خانہ

(۳) اسپتال (۴) عجائب گھر

(ه) ڈپنسری کا آخری معائنه ہوا تھا:

(۱) ۱۹۳۰ء میں (۲) ۱۹۳۱ء میں

(۳) ۱۹۳۲ء میں (۴) ۱۹۳۳ء میں

سوال۲: درست الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:

(الف) ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنچ کر تھی پر..... بیٹھے تھے۔

(ب) مریض اپنی..... کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا۔

(ج) غالباً یہ نہ..... کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔

(د) مجھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع..... کا ڈپنسری گیا ہوں۔

(ه) ڈاکٹر صاحب پورے..... برس سے میجاہی فرمائے تھے۔

سوال ۵: درست بیان پر (✓) کا نشان لگائیے:

- (ا) چینی کے بننے ہوئے ظروف ۱۵۰ اسال پرانے تھے۔
- (ب) اسپتال کے وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھیں باندھی جاتی تھیں۔
- (ج) انسان کی آنکھ عموماً ترچھی ہوتی ہے۔
- (د) یہاں پر دوائیوں کی جگہ توعیزوں سے علاج کیا جاتا ہے۔
- (ه) وارڈ میں بکری باندھنے کا بھی بندوبست ہے۔

سوال ۶: گزشتہ کل صحیح سے رات تک کے واقعات لکھیے۔



- (۱) اپنے علاقے کی ڈسپنسری / اسپتال کی صحت و صفائی کے بارے میں متعلقہ مکمل کوخط لکھیں۔
- (۲) ادبی، صحافتی اور قانونی تحریروں کا فرق بیان کریں۔

✿ آپ بیتی اُس تصنیف کو کہتے ہیں، جس میں مصنف نے اپنے حالات و واقعات خود قلم بند کیے ہوں۔

ہدایات برائے اساتذہ:


- (۱) طلبہ کو ڈائری یا روزنامچے لکھنے کی ترغیب دیجیے۔ (۲) روزمرہ زندگی کے تجربات اور واقعات پر مشتمل اخباری تراشوں کا الیم تیار کرنے کی ترغیب دیجیے۔ (۳) ادبی، صحافتی، دفتری اور قانونی تحریر کے فرق کو مثالی نمونوں سے واضح کیجیے۔

## مرزا فرحت اللہ بیگ

ولادت: ۱۸۸۳ء      وفات: ۱۹۲۷ء



مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم وہیں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر حیدر آباد (دکن) چلے گئے۔ وہاں پہلے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے۔ پھر محکمہ انتظامیہ میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں ترقی کرتے کرتے اسٹینٹ ہوم سیکریٹری کے عہدے تک پہنچے۔ ان کے مضامین میں ”مولوی نذری احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی“ اور ”دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ“ بہت مشہور ہیں۔ دہلی کی بامحاورہ زبان، سنجیدہ ظرافت کے علاوہ واقعہ نگاری کے لحاظ سے بھی ان مضامین کو اردو نثر کے شہ پاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے ”مضامین فرحت“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔



## اُونہہ

- حاصلاتِ تعلّم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) سبق میں محاورے تلاش کر کے لکھ سکیں۔  
 (۲) سیاق و سباق کے حوالے سے دی ہوئی عبارت کا معنیوم لکھ سکیں۔  
 (۳) عام ضرورت کے فارم بھر سکیں۔ (۴) سابقے اور لاحقے میں تیز کر سکیں۔

اس صورت میں ابا اور اماں کی 'اُونہہ' کا دوسرا مطلب ہے۔ یعنی یہ کہ 'بچہ، ابھی فیل ہوا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ذرا کچھ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رورو کر اپنی جان ہلاکان کر لے یا کہیں جا کر ڈوب مرے۔ غرض، اس 'اُونہہ' نے صاحزادے صاحب کی تعلیم کا خاتمہ بالخیر کر دیا۔

گھروالی کی 'اُونہہ' سب سے خطرناک 'اُونہہ' ہوتی ہے۔ کسی ماما پر خفا ہو رہی ہیں۔ وہ برابر جواب دیے جاتی ہے۔ یہ 'اُونہہ' کر کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ لیجے، نوکر شیر ہو گئے۔ گھر کا سارا انتظام درہم برہم، خود ان کے اختیارات سلب، گھر کی حکومت ان سے چھن، ماماوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ کوئی چیز چوری ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے ادھر اُدھر ڈھونڈا۔ کچھ تھوڑا بہت غل مچایا۔ آخر 'اُونہہ' کر کے بیٹھ گئیں۔ اب کیا ہے! پڑاری میں سے کچھا چھالیا غائب، خرچ کی صندوق تھی میں سے روپے پسیے غائب، صندوقوں میں سے کچھے غائب۔ غرض، رفتہ رفتہ سارے گھر کا صفائیا ہو گیا۔ مانے کوئی رکابی توڑ ڈالی۔ شکایت ہوئی، انھوں نے وہی اپنی 'اُونہہ' کا استعمال کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں الماری کے پیچھے سے شیشے اور چینی کا اتنا ٹوٹا ہوا سامان نکلا کہ خاصہ کئی صندوق بھر جائیں۔ بچوں نے کوئے سے دیواروں پر لکریں کھینچیں، دروازوں پر پنسل سے کیڑے مکوڑے بنائے۔ پہلے تو یہ تھوڑی بہت بگڑیں، پھر 'اُونہہ' کر کے چپ ہو گئیں۔

اب رہے میاں، تو ان کی 'اُونہہ' سب سے زیادہ تیز ہے۔ بیوی کسی بات پر بگڑیں، میاں 'اُونہہ' کہہ کر باہر چلے گئے۔

طالب علموں کو دیکھو تو 'اُونہہ' کا زور سب سے زیادہ انھی میں پاؤ گے۔ سال بھر کھیل کو دیں گزار دیا۔ امتحان کا خیال آیا تو 'اُونہہ' کر دی، یعنی کل سے پڑھیں گے۔ آخر یہ 'اُونہہ' یہاں تک کھینچی کہ امتحان آ گیا۔ فیل ہوئے۔ اس فیل ہونے پر بھی 'اُونہہ' کر دی۔ یہ 'اُونہہ' بہت ہی بامعنی ہوتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ باپ زندہ ہیں، کھانے پینے اور اڑانے کو مفت ملتا ہے۔ اگر وہ بھی مر گئے تو جائداد موجود ہے۔ قرضہ دینے کو سا ہو کارتیار ہیں۔ پھر پڑھ لکھ کر اپنا وقت کیوں ضائع کریں! دوسرے معنی یہ ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، صرف اٹھارہ برس ہی کی تو ہے۔ اگر مڈل کے امتحان میں دو چار دفعہ فیل ہوچکے ہیں تو کیا حرج ہے۔ تیس سال کی عمر تک بھی انظر پاس کر لیا تو سفارش کے بل پر کہیں نہ کہیں چپک ہی جائیں گے۔ یا کم سے کم ولایت جانے کا قرضہ تو ضرور مل جائے گا، اور ذرا کوشش کی تو بعد میں معاف ہو سکے گا۔ اس فیل ہونے پر ادھر انھوں نے 'اُونہہ' کی اور ادھر ماں باپ نے 'اُونہہ' کی۔

ہاں، یہ ضرور ہے کہ میاں بیوی کی یہ 'اوہمہ' بعض دفعہ وہ کام کر جاتی ہے جو بڑے بڑے افلاطون صلاح کا رہنمی نہیں کر سکتے۔ بیوی کو غصہ آیا، میاں نے 'اوہمہ' کر دی۔ چلو، لڑائی کا خاتمه ہوا۔ میاں کسی بات پر بگڑے، بیوی نے 'اوہمہ' کر دی، میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اگر 'اوہمہ' کی بہ جائے جواب دیا جاتا تو میاں کو گھر چھوڑنا اور بیوی کو میکے جانا پڑتا۔

ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ فتح یا شکست۔ اور دونوں صورتوں میں 'اوہمہ' نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے 'اوہمہ' کی، اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا۔ جس نے فتح پر 'اوہمہ' کی، اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں ڈوبتا تو کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔ اب رہے 'اوہمہ' والے، جو لاپرواں سے شکست اور فتح کو برابر سمجھتے ہیں۔ ان کا بس خدا ہی مالک ہے۔ دنیا سے اگر مت نہ جائیں گے تو کم سے کم جو تیاں ہمیشہ ضرور کھائیں گے۔

(ماخوذ از: "مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ"، جلد سوم، مضامین)

## مشق

- سوال ۱: درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے:
- طالب علموں کے "اوہمہ" کرنے کی وجہات تحریر کیجیے۔
  - اس سبق میں مصنف نے کہاں کہاں طنز اور کہاں کہاں مزاح سے کام لیا ہے؟ تین موقع تحریر کیجیے۔
  - اس سبق میں ابا اور اتماں کی "اوہمہ" کا کیا مطلب ہے؟
  - میاں بیوی کی "اوہمہ" کیسے فائدہ مند ہے؟
- سوال ۲: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:
- قرضہ دینے کو تیار ہیں:
  - (۱) استار  
(۲) ماں باپ
  - (۳) ساہوکار  
(۴) دوست
  - الماری کے پیچھے سے ٹوٹا سامان اٹکا:
  - (۱) شیخے اور چینی کا  
(۲) مٹی اور شیخے کا
  - (۳) پلاسٹک اور کاغذ کا  
(۴) اسٹیل اور تانبے کا
  - (ج) "اوہمہ" کر کے چپ ہونے سے نوکر ہو جاتے ہیں:
  - (۱) شیر  
(۲) بادب  
(۳) دلیر
  - بچوں نے دیواروں پر لکیریں کھینچیں:
  - (۱) چاک سے  
(۲) کوئلے سے
  - (۳) رنگ سے  
(۴) چونے سے
- سوال ۳: سبق میں موجود محاورات تلاش کر کے اُن کے معانی تحریر کیجیے۔



سوال ۴: مندرجہ ذیل الفاظ میں سے سابقے اور لاحقے الگ الگ کر کے لکھیے:

بدنصیب- بد قسمت- داغ دار- لاعلاج- پائے دار- شکر گزار

سوال ۵: درج ذیل عبارت کا مفہوم مع سیاق و سبق تحریر کیجیے:

”ہر معاملے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ فتح یا شکست۔ اور دونوں صورتوں میں اُونہہ، نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شکست پر جس نے اُونہہ کی، اس نے گویا شکست کو شکست نہ سمجھا۔ جس نے فتح پر اُونہہ کی، اس نے گویا اپنی ہمت کی قدر نہیں کی۔ وہ آج نہیں ڈوباتا کل ڈوبے گا۔ دنیا میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست سمجھیں۔“



### سرگرمیاں


(۱) طلبہ کوئی ایسا دل چسپ واقعہ کلاس میں اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔

(۲) طلبہ اس سبق کے مصنف کی دیگر مزاجیہ تحریر کسی اخبار یا رسانے سے کاٹ کر چارٹ پر آویزاں کریں۔

**ہدایات برائے اساتذہ:**

(۱) طلبہ کو دفتری اور مزاجیہ تحریر کا فرق واضح کر کے بتائیے۔

(۲) محاورے تلاش کرنے میں بچوں کی مدد کیجیے۔



## حکیم محمد سعید

ولادت: ۱۹۲۰ء وفات: ۱۹۹۸ء

حکیم محمد سعید، ہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ ۹ سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوسازی کا ایک بڑا مطب ”ہمدرد“ قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بڑے اسکالر تھے۔ انھیں کراچی میں مطب سے والپی پر شہید کر دیا گیا۔

حکیم صاحب نے پاکستان میں ”نونہال“ بچوں کا رسالہ شائع کیا اور تقریباً دو سو سے زیادہ کتابیں بھی لکھیں جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہیں۔ انھوں نے بہت سے ملکوں کے سفرنامے بھی لکھے۔ وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے مگر اس کا معاوضہ تک نہ لیا۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے جن میں ”ستارۂ امتیاز اور نشان امتیاز“ شامل ہیں۔



## پچھوڑق تاریخ سے

**حاصلاتِ تعلم:** یہ سفرنامہ پڑھ کر طلبہ: (۱) کسی سفر کا حال لکھ سکیں۔ (۲) مترادف الفاظ کے جوڑے بنائیں۔ (۳) روزمرہ زندگی کے تجربات، مشاہدات یا واقعات کے حوالے سے یادداشت /ڈائریکٹ لکھ سکیں۔ (۴) درست تلقظہ، عمدہ لب ولجہ میں اپنا سفرنامہ بیان کر سکیں۔

نو نہالو! تمحیں معلوم ہے کہ برٹش میوزیم کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔

برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لا بصری ہے۔ یہ ایک آرٹ گیلری بھی ہے، جہاں مجسمہ سازی، مصوّری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں جو دنیا بھر سے جمع کر کے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ان میں قدیم یونان، مصر، باہل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوازدات شامل ہیں۔ یہاں تاریخ سے پہلے کے زمانے کی یادگار چیزوں کا بھی ایسا قیمتی ذخیرہ ہے، جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔

برٹش میوزیم میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں اور دنیا بھر میں آثارِ قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مئی کے برلن، مورتیاں اور دوسری چیزوں ہیں جن سے تاریخ کے مختلف ادوار کی تہذیب اور تمدن کا پتا چلتا ہے۔ یہ تحقیق کا کام کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتی ہیں۔

برٹش میوزیم کی لا بصری دنیا کی تین سب سے بڑی لا بصریوں میں شمار ہوتی ہے۔ دوسری دو عظیم لا بصریوں پیرس کی لا بصری بیلیوٹک نیشنل اور واشنگٹن کی لا بصری آف کانگریس ہے۔ یہاں ستر لاکھ سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ان میں زیادہ تر انگریزی ہی کی کتابیں ہیں، لیکن دنیا کی دوسری زبانوں کی کتابیں بھی یہاں ہیں۔ برٹش میوزیم کی لا بصری کے تین بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ مطبوعہ یعنی چھپی ہوئی، کتابوں کا ہے۔ اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک کے ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ مخطوطات یعنی قلمی ناخوں کا ہے۔ یہاں تیسرا صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپی مخطوطات ہیں۔ تیسرا حصہ مرکاش سے لے کر جاپان تک کے مخطوطوں اور چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لا بصری ہے۔ برٹش میوزیم لا بصری کے مخطوطات کے حصے میں یونان کے آئین کے بارے میں اسطوکی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی موجود ہے۔

نو نہالو! تمحیں جانتا چاہیے کہ الیرومنی اور ابن الہیشم کون تھے۔

الیرومنی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ اسلامی دنیا کے ایک عظیم سائنس داں تھے۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات اور دواؤں کی خاصیت کے ماہر، سیاح اور آثارِ قدیمہ کے عالم بھی تھے۔

الیرومنی نے اپنی زندگی کے پچاس سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ ان کو ان کتابوں پر شاہی دربار سے بڑے انعامات بھی پیش کیے گئے لیکن انھوں نے کوئی انعام قبول نہیں کیا۔ وہ شاہی انعام کو اپنے علمی مقام اور مرتبے کے خلاف سمجھتے تھے اور کسی انعام کی پرواہ کیے بغیر لکھنے میں لگے رہتے تھے۔

البیرونی نے سوسا سوتا میں لکھی ہیں۔ ان میں جیو میٹری، ریاضی، جغرافیہ، زمین کے علم، فلکیات اور دواؤں کے علم پر کتابیں شامل ہیں۔

البیرونی کے اہم سائنسی کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا اور دنیا میں پہلی بار قدرتی چشمیں کے بارے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ زمین کے نیچے پانی میں بر قی کیمیائی عمل کے زور سے اُبھرتے ہیں۔ انھوں نے دریا اور زمین کی گہرائی معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور معدنیات کے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ انھوں نے بہت سی جڑی بوٹیوں کی خصوصیات اور آن کے فائدے اور مختلف زبانوں میں آن کے نام بھی بتائے۔

ہیئت (Astronomy) اور ریاضی کے مطالعے کے لیے البیرونی نے ہندوستان کا سفر کیا اور وہاں کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں کا غور سے مطالعہ کیا۔ پھر غزنه واپس آ کر ”كتاب الهند“ کے نام سے ایک کتاب لکھی اور وہ ساری معلومات جو انھیں ہندوستان میں حاصل ہوئی تھی اس میں جمع کر دیں۔ ہندوستان کے عالم البیرونی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انھیں ”علم کا دریا“ کہنے لگے۔

البیرونی کا انتقال ۱۰۲۸ عیسوی میں ہوا۔

ابن الہیثم کا نام ابو علی الحسن تھا، برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی، جس میں انھوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے؟ انھوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا، جسے آج ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندر وہی بناؤٹ کیسی ہے۔ ابن الہیثم نے یہ اصول بیان کیا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی بارے کی سوراخ سے گزر کر کسی پر دے پڑتی ہیں تو وہ اُس پر دے پر اُس

جسم کا اٹھا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آرہی ہیں۔ انھوں نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا یعنی ایک شمع کا اٹھا عکس پر دے پڑا۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔

ابن الہیثم نے بصریات (دیکھنے کا علم) کے علاوہ ریاضی اور فلکیات میں بھی بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ ۹۶۵ عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بصرے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور بغداد پلے گئے جو اُس زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں انھوں نے مختلف علماء اور سائنسدانوں سے ملاقات کی اور آن سے علمی مذاکرے کیے۔ بغداد سے وہ قاہرہ گئے اور پھر اپنی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزار دیا۔ اس نام ور مسلمان سائنسدان کا انتقال ۱۰۳۳ء میں ہوا۔

(ماخوذہ از: ”لندن اور کیمبرج“)



سوال: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟

(ب) دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لاہوری میں کیا کیا شاہ کار موجود ہیں؟

(ج) ”البیرونی“ کو کس کتاب نے شہرت دی؟

(د) برٹش میوزیم کی لاہوری کوکتے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور آن میں کیا رکھا گیا ہے؟

(ه) ”روشنی“ کتاب کس نے لکھی؟ اُس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟

(و) کیمرے کا بانی کون ہے؟

سوال ۲: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:  
 (الف) پیرس کی لاپبری ی کا نام ہے۔

- (۱) ببلیونک نیشنل      (۲) ببلیونک پر اوشل  
 (۳) ببلیونک ڈویٹنل      (۴) ببلیونک ریجنل

(ب) برطانیہ کی لاپبری ی میں کتابیں موجود ہیں۔

- (۱) ۵۰ لاکھ      (۲) ۶۰ لاکھ  
 (۳) ۷۰ لاکھ      (۴) ۸۰ لاکھ

(ج) الیروینی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے:

- (۱) دس سال      (۲) بیس سال  
 (۳) چالیس سال      (۴) چھاس سال

(د) ابن اہیشم کا نام تھا:

- (۱) حکیم محمد سعید      (۲) ابو علی الحسن  
 (۳) سید حسین نصر      (۴) فخر الدین رازی

سوال ۳: درج ذیل کالم ”الف“، ”کو کالم ”ب“ سے ملائیے:


”الف“	”ب“
الیروینی اسلامی دنیا	کے عظیم سائنس دان تھے۔
حکیم محمد سعید نے	علمی مرکز کی حیثیت دی ہے۔
ابن اہیشم ریاضی اور	فلکیات کے ماہر تھے۔
حکومت برطانیہ نے برٹش میوزیم میں	برٹش میوزیم ائندن پر سفر نامہ لکھا ہے۔

سوال ۲: درج ذیل لفظوں میں سے مترادف کے جوڑے ملائیے:  
 خواہش، عکس، تقیقی، نادر، مشکل، دشوار، نایاب، تمنا، سایہ، پیش بہا

### سرگرمی

طلباہ اپنے سفر کی روادا لکھ کر ٹیچر کو دکھائیں۔

❖ وہ باتیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہیں اور مختلف ہونے کے ساتھ دل چسپ اور حیرت انگیز نظر آتی ہیں، وہ انھیں اپنے ہم وطنوں کے لیے قلم بند کر لیتا ہے اسے سفر نامہ کہتے ہیں۔



## غالب

(بہ حیثیت مکتب نگار اور نشر نگار)

مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان نام، نجم الداولہ، دیر المک اور نظام جنگ خطابات، مرزا نوشہ عرفیت اور غالب تخلص تھا۔ پہلے اسد تخلص رکھا پھر غالب اختیار کیا۔ ابھی پانچ ہی برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ پچانصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی، نو برس کی عمر میں پچا کاسایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ چنان چہ مرزا اپنے نہیاں میں آ گئے۔ تیرہ برس کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آپ دلی چلے آئے۔

غالب سے پہلے اردو خطوط بڑے مشکل انداز سے لکھے جاتے تھے۔ مسجع ترش میں طویل آلقاب ہوا کرتے تھے۔ لیکن غالب نے ایسا نیا اور دل چسپ انداز اختیار کیا کہ جس نے اردو نثر کا انداز ہی تبدیل کر دیا۔

آپ کی نثری تصنیفات و تالیفات میں نثر فارسی، عودہندی (خطوط) اردوئے معنی (خطوط)، پنج آہنگ (خطوط)، اطائفِ غیبی، قاطعِ بُران (لغت)، مہرِ نیم روز (تاریخ) اور دستنو تقابلی ذکر ہیں۔



## غالب کے خطوط

حاصلاتِ تعّمٰ: یہ سبق پڑھ کر طلبہ: (۱) رسمی و غیر رسمی خط لکھ سکیں۔ (۲) غالب کے خطوط کے متن پر اپنی رائے تحریر کر سکیں۔ (۳) شہر کے ناظم کو علاقے کی صفائی کے بارے میں درخواست لکھ سکیں۔

### ۱- بہ نام ہرگو پال تفتہ

کیوں صاحب!

رُوٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تھائی میں صرف خطوط کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا، میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، جو اطراف و جوانب سے دوچار خط نہیں آ رہتے ہوں۔ بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بارڈاک کا ہر کارہ خط لاتا ہے۔ ایک دفعہ کو اور ایک دو شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے۔ دن اُن کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب، دس دس بارہ بارہ دن سے تمہارا خط نہیں آیا۔ یعنی تم نہیں آئے۔ خط لکھو صاحب۔ نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آدھا آنے میں بخل نہ کرو۔ ایسا ہی ہے تو یونگ ہیچجو۔

غالب

سوموار، ۲۷ دسمبر ۱۸۵۸ء

(ماخوذ از: ”غالب کے خطوط“، خلیق احمد)

# مشق

**سوال ۱:** درج ذیل سوالات کے جواب دیکھیے:

- (الف) غالـب نے کس مقام سے میر مهدی مجردـح کے نام خط تحریر کیا؟

(ب) دریائے کوئی کہاں واقع ہے؟

(ج) غالـب نے دریائے کوئی کے پانی کی کیا خصوصیت بیان کی ہے؟

(د) بیرونگ خط سے کیا مراد ہے؟

(ه) منشی ہر گوپاں قـتنـة کے نام خط کا آغاز کس طرح کیا گیا ہے؟

(و) غالـب نے میر مهدی مجردـح کو بے وساں خط بھیج دینے کا کیوں کہا؟

**سوال ۲:** درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

- (الف) میر امکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا ہے:

## دوست (۱) بھائی (۲)

(۳) چا (۳) خالو

(ب) اہاہا! میرا پیارا آیا:

## (۱) میر مهدی      (۲) میر تقی میر

۳) میہ درد (۲) میہ حسن (۱)

(ج) آب حات بڑھاتا ہے:

(۱) مال کو (۲) دولت کو

(۳) عجم کو

جسرا کا خط آتا، میرا نے حانا کے وہ شخص لایا:

(د) جس کا خط آیا، میں نے حانا کہ وہ شخص لا با:

## (۱) تشفیف (۲) خوشنویسی

(٣) بیغام (٣) تخفه

۲-بہنام میر مہدی مجرد ح

اہاہا! میرا پیارا میر مہدی آیا۔ آ و بھائی، مزاج تو اچھا ہے؟ بیٹھو، یہ رام پور ہے۔ دارالسرور ہے۔ جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں؟ پانی، سُبْحَانَ اللّٰهِ! شہر سے تین سو قدم پر ایک دریا ہے اور کوئی اُس کا نام ہے۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ خیر، اگر یوں بھی ہے تو بھائی، آب حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا۔

تمھارا خط پہنچا۔ تر ڈد عبّث۔ میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک ٹنڈی میرا دوست ہے، نہ عرف لکھنے کی حاجت، نہ محلے کی حاجت۔ بے و سواس خط بھیج دیا کبھیے اور جواب لیا کبھیے۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے۔ اس وقت تک مہمان ہوں۔ دیکھوں، کیا ہوتا ہے۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں۔ اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔

۲۷

(ماخوذ از: ”غالب کے خطوط“، مُرثیہ: خلیق انجمن)



(۵) آدھا نے میں نہ کرو:

(۱) نگل (۲) بجل (۳) سخاوت (۴) فروخت

سوال ۳: درج ذیل خالی جگہ میں درست لفظ لکھ کر پُر کیجیے:

(الف) یہاں پورہ ہے جو.....یہاں ہے وہ اور کہاں۔

(ب) شہر سے ..... سو قدم پر ایک دریا ہے۔

(ج) کیوں صاحب ..... ہی رہو گے۔

(د) میں اس ..... میں صرف خطوں کے بھروسے جلتا ہوں۔

(۵) چشمہ آب حیات کی کوئی ..... اس میں ملی ہے۔

سوال ۴: درست پیان پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) جس کا خط آیا، میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ ( )

(ب) غالب کے خط رسمی انداز کے ہوتے ہیں۔ ( )

(ج) غالب نے خط لکھنے کا نیا انداز ایجاد کیا۔ ( )

(د) خطوط غالب سے اردو نثر کو بہت فائدہ ہوا۔ ( )

سوال ۵: درج ذیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے:

ہر کارہ - تردد - عبث - اطراف و جوانب - بجل

سوال ۶: اپنے درست کو خط لکھیے جس میں کسی پنک کا احوال درج ہو۔

سرگرمیاں

(۱) طلبہ اخبارات کا مطالعہ کریں اور کسی کالم پر اپنی رائے تحریر کریں۔


(۲) طلبہ شہر کے ناظم کو علاقے کی صفائی کے بارے میں درخواست لکھیں۔

ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) طلبہ کو خط اور درخواست کے چند نمونے فراہم کیجیے۔

(۲) درخواست لکھنے وقت طلبہ کی رہنمائی کیجیے۔





## مولوی محمد امیل میرٹھی

ولادت: ۱۸۲۳ء وفات: ۱۹۶۷ء

مولوی محمد امیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھی میں پائی۔ پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارن پور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیں۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے رٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آگئے اور یہیں انتقال فرمایا۔

امیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ کی شاعری، زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام ”کلیاتِ امیل“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل ”حمد“، اسی کلیات سے لی گئی ہے۔



## حَمْد

حاصلاتِ تعلم: نظم پڑھ کر طلبہ: (۱) مصروع اور شعر کی تعریف بیان کر سکیں اور نشان دہی کر سکیں۔ (۲) نظم کا مرکزی خیال بیان کر سکیں۔ (۳) حمد کو ترمیم سے پڑھ سکیں۔

وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی  
نہ اس میں خلّ ہو نہ بیشی کی  
ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک  
ہُنر ایک ہے اور استاد ایک

(مانوڈا ز لکھیاں اسماعیل میرٹھی)



سوال۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) نظم میں ”چھت“ سے کیا چیز مراد ہے؟
- (ب) شاعر نے زنجیر کے کہا ہے؟
- (ج) ”عل و گہر“ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
- (د) اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟
- (ه) حمد کے دوسرے، پانچویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔

سوال۲: اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔

سوال۳: خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے:

- (الف) بندھے ہیں ..... سخت زنجیر سے
- (ب) وہ ..... کیا ہے؟ کشش باہمی
- (ج) بنائی ہے تو نے یہ کیا ..... چھت
- (د) یہ تیری ہی ..... کے سب کھیل ہیں
- (ه) تصور تری ..... کا ہے مجال

خدا یا نہیں کوئی تیرے سوا  
اگر تو نہ ہوتا، تو ہوتا ہی کیا؟  
تصوّر تری ذات کا ہے مجال  
کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال  
بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت  
کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت  
یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے  
چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے  
چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں  
یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں  
یہ عل و گہر ہیں جو بکھرے پڑے  
زمیں سے بھی ہیں اُن میں اکثر بڑے  
یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے  
بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے

☆ آپ اس حمد کے پہلے دو مصروع غور سے پڑھیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ اس طرح کے چند عامی لفظوں پر مشتمل مصروعوں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے دو حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصروع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصروع کو مصروع اولی اور دوسرا مصروع ثانی کہتے ہیں۔

مثال: **لِخَدَائِيْنِيْسْ كُوئِيْ تَيْمَرَ سَوا**  
(Musrū' A'wali)  
**أَگْرَقْتُونَهُ وَتَوْهَتَاهِيْ كَيَا**  
(Musrū' Thāni)

" " یہ تنہا شعر کی علامت ہے اور "ع" مصروع کی علامت ہے۔

سوال: جوابات دیجیے:

(الف) اس حمد میں کل کتنے مصروع اور کتنے شعر ہیں؟

(ب) کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصروع اولی اور مصروع ثانی کی نشان دہی کیجیے۔

سوال: درج ذیل سوالات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) ایک شعر میں مصروع ہوتے ہیں:

(۱) دو (۲) چار

(۳) چھ (۴) آٹھ

(ب) حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چرانگوں سے مراد ہے:

(۱) پھول (۲) ستارے

(۳) بلب (۴) بیبرے

(ج) اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے:

(۱) تدیر سے (۲) تکبیر سے

(۳) زنجیر سے (۴) تقدیر سے

(د) اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے:

(۱) طریقہ (۲) قانون

(۳) ضابطہ (۴) اصول

(ه) کائنات میں سب کھیل ہیں:

(۱) ہمت کے (۲) قدرت کے

(۳) عزت کے (۴) فرصت کے

### سرگرمیاں

(۱) طلبہ اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت اور صفات کے بارے میں بیس جملوں پر مشتمل چارٹ تیار کر کے کلاس میں آؤ یا زاں کریں۔  
(۲) طلبہ یہ حمد ترجمہ سے پڑھیں۔


﴿ حمودہ نظم ہے جس میں اللہ سبحان، و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔

﴿ منشوی اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس میں ہر شعر کے دونوں مصروع ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر کے قافیے الگ الگ ہوتے ہیں۔

#### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) طلبہ کو حمد کی تعریف سے آگاہ کیجیے۔ (۲) دیگر شعراء کے منتخب حمد یا اشعار طلبہ کو یاد کرائیے۔ (۳) تنہا شعر اور مصروع کی علامت کے استعمال پر طلبہ کو متوجہ کیجیے۔





## امیر مینائی

ولادت: ۱۸۲۹ء وفات: ۱۹۰۰ء

امیر احمد مینائی لکھنؤ کے ایک دینی و علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار بڑے علماء میں کیا جاتا ہے۔ آپ کواردو، فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا مگر خاص وجہ شہرت نقیبہ شاعری ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے۔ آپ کی کتب ”انتخاب بیادگار، صنم خانہ عشق، امیر اللغات، مرأۃ الغیب، مینائے بخن، خیابان آفرینش اور حماید خاتم النبیین“، قابل ذکر ہیں۔ آپ اپنی کتاب ”امیر اللغات“ کی اشاعت کے لیے حیدر آباد (دکن) گئے اور وہیں اس دارفانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح تاریخ نعت گوئی کی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔

## نعت

حاصلاتِ تعلّم: یہ قلم پڑھ کر طلبہ: (۱) حمد و نعت اور منقبت میں فرق جان سکیں۔ (۲) قافیے کی تعریف بیان کر سکیں اور نشان دہی کر سکیں۔ (۳) نعت کا مرکزی خیال بیان کر سکیں۔

خلق کے سرور، شافعِ محشر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلَمْ  
مُرْسَلِ دَاوَر، خاص پیغمبر صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلَمْ  
نُورِ جُسمَّ، ثَمَرِ عَظَمَ، سَرورِ عَالَمَ، مُونِسِ آدَمَ  
نُوحَ کے هَمِ دَمَ، خَضْرَ کے رَهْ بَرَ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلَمَ  
بَحْرِ سَخَاوَتَ، كَانِ مُرْوَّتَ، آيَةَ رَحْمَتَ، شَافعِ أَمْتَ  
مَالِكِ جَنَّتَ، قَاسِمِ كَوْثَرِ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلَمَ  
رَهْ بِرِ مُوتَّى، هَادِي عَيْسَىٰ، تَارِكِ دُنْيَا، مَالِكِ عُقَبَى  
ہاتھ کا تکیہ، خاک کا بُسْتَرِ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلَمَ  
مَهْرَ سے مَمْلُوِّ رِيشَہِ رِيشَہِ، نَعْتَ امِیرَ ابَ اپنا ہے پیشَہ  
وَرَدَ هَمِیشَہِ رہتا ہے اکْثَرِ صَلَّی اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلَمَ

(ما خواز: ”محمد خاتم النبیین“، امیر مینائی)



**مشق**

سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) رسول اکرم ﷺ کو آئی رحمت کیوں کہا گیا ہے؟

(ب) اس نعت میں کون سے نبیوں کا نام آیا ہے؟

(ج) قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟

(د) حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟

(ه) نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کیجیے۔

سوال ۲: اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔

سوال ۳: نعت کے مطابق کالم "الف" کے الفاظ کالم "ب" سے ملائیے:

"الف"	"ب"
خلق کے	بستر
نوح کے	تکیہ
حضر کے	ہم دم
ہاتھ کا	رہبر
خاک کا	سرور

یہ اشعار غور سے پڑھیے:

خلق کے سرور، شافعِ محشر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ  
مرسل داور، خاص پیغمبر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ  
نورِ جسم، نَبِیْرِ عظیْم، سَرَوِرِ عَالَم، مُوسِیْ آدَم  
نُوح کے ہم دم، حضر کے رہ بر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ  
ان اشعار میں محشر، پیغمبر اور رہ بر کے الفاظ قافیے ہیں اور "صلی اللہ علیہ وسلم" "ردیف"  
ہے۔ وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد آتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ بعض

اوقات کوئی شعر قافیے ہی پر مکمل ہو جاتا ہے، کیوں کہ شعر کے لیے قافیہ ضروری ہے،  
ردیف لازم نہیں۔

وہ حروف و حرکات جو اشعار کے آخر میں آئیں، قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کے حروف  
تبدیل ہوتے ہیں۔

سوال ۴: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) شام اور نام کے پانچ قوانین درج کیجیے۔

(ب) امیر بینائی کی نعت میں کون کون سے قافیہ استعمال ہوئے ہیں؟

(ج) ردیف کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟

سوال ۵: درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) شاعر نے رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ کو نوح کا کہا ہے:

(۱) دوست      (۲) بزرگ

(۳) ہم دم      (۴) رہبر

(ب) شاعر نے بُجُر سخاوت کہا ہے:

(۱) حضرت آدم کو      (۲) حضرت موسیٰ

(۳) حضرت عیسیٰ      (۴) حضرت محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ

(ج) نعت میں توصیف کی جاتی ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ کی      (۲) رسول اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ کی

(۳) انبیاء کرام کی      (۴) صحابہ کرام کی

(د) تارک دنیا سے مراد ہے:

(۱) دنیا کو چاہنے والا      (۲) دنیا سے بے زار

(۳) دنیا کو چھوڑنے والا      (۴) دنیا میں مصروف

- (۵) اس نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد ہے  
 (۱) چار (۲) پانچ  
 (۳) سات (۴) چھے

### سرگرمیاں

(۱) طلبہ نعتِ ترجمہ سے پڑھیں۔

(۲) طلبہ کوئی ایک نعت یا مختلف نعمتوں کے پانچ اشعار یاد کریں۔

✿ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جس نظم میں کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کو نعت لکھنے، پڑھنے اور سننے کے آداب سے آگاہ کیجیے۔  
 (۲) یہ نعت طلبہ سے کورس کی صورت میں پڑھوایے۔  
 (۳) حمد، نعت اور منقبت میں فرق طلبہ کو سمجھائیے۔

## نظم را کبر آبادی

ولادت: ۱۸۳۵ء وفات: ۱۸۳۰ء



نظم را کبر آبادی کا نام ولی محمد اور تخلص نظیر تھا۔ ولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ گورنر آگرہ نواب سلطان کی بیٹی تھیں۔ احمد شاہ عبدالی نے جب ولی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ اور دادی کے ہمراہ اکبر آباد چلے آئے، اس نسبت سے اکبر آبادی کہلانے۔ اردو اور فارسی زبان پر انھیں دست رس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ عربی، پوربی، ہندی اور پنجابی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔

نظم را در کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے نظمیہ شاعری کو فروغ دیا۔ آپ کی شاعری کے موضوعات انسان، فطرت، سماج وغیرہ ہیں۔ وہ ایک خالص عوامی شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں تیوہار، فطرت، سماج اور معاش کے منتف پہلوؤں کو موثر انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ”برسات کی بہاریں، آدمی نامہ، ہنس نامہ اور بخارہ نامہ“ وغیرہ ان کی معروف نظمیں ہیں۔ ”کلیاتِ نظیر اکبر آبادی“ اردو ادب کا عظیم سرمایہ ہے۔



## برسات کا تماشا

حاصلاتِ تعلم: نظم پڑھ کر طلبہ: (۱) درست اب و لجھ اور صحیح تلفظ سے نظم پڑھ سکیں۔  
 (۲) ساخت کے لحاظ سے نظم کی بیت بتائیں۔ (۳) بند کی تعریف کر سکیں۔

خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے  
 لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش، زر سے  
 آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے  
 آدھے آسائی تو اب دشمن کے گھر سے بُرسَت  
 آیا! چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

قادم صبا کے دوڑے ہر طرف مُنْه اٹھا کر  
 ہر کوہ و دشت کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر  
 ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر  
 کوئی دم کو میگھ راجا دیکھے گا سب کو آ کر  
 آیا! چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

جب یہ نوید پُنجی صمرا میں ایک باری  
 ہونے لگی وہاں پھر برسات کی تیاری  
 چشمیں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری  
 موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری  
 آیا! چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

سالون کے بادلوں سے پھر آ گھٹا جو چھائی  
 بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی  
 ہو مَست رَعد گرجا کوئی کی گُوك آئی  
 بدھی نے کیا مزے کی یم جھنم جھٹری لگائی  
 آیا! چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

کالی گھٹا ہے ہر دم، بر سے ہیں مینھ کی دھاریں  
 اور جس میں اُڑ رہی ہیں بگلوں کی سو قطاریں  
 کوئیں پسیے گوئیں اور گُوك کر پکاریں  
 اور مور مَست ہو کر جوں گوکلا چتکھاریں

آیا! چل کے دیکھیں برسات کا تماشا  
 بنگلے سمجھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر، دے  
 میوے مٹھائی انہے انگور اور سردے  
 پکوان تازے تازے خاصے، پلاو، زردے  
 بُرسَت ہے ابر باراں کھلوا دیے ہیں پُردے

آیا! چل کے دیکھیں برسات کا تماشا

(ماخوذ از: ”کلیاتِ نقیر اکبر آبادی“)



## مشق

سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) خورشید کس طرح گھر سے نکلا ہے؟

(ب) اس نظم میں صبا کے قاصدے کیا مراد ہے؟

(ج) اس نظم کے چوتھے بند میں کیا منظر دکھایا گیا ہے؟

(د) صبا نے کوہ دشت اور صحرائیں کیا نوید سنائی؟

(ه) کون کون سے جانور بر سات سے لطف اٹھا رہے تھے؟

(و) ساخت کے لحاظ سے اس نظم کا کیا نام ہے؟

سوال ۲: آپ بر سات سے کیسے لطف انداز ہوتے ہیں؟

سوال ۳: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) بارش کی وجہ سے تازے تازے موجود ہیں:

(۱) پھل (۲) میوے (۳) پکوان

(ب) کالی گھٹا سے چنگھار ہے ہیں:

(۱) ہاتھی (۲) مور (۳) بگل

(ج) کالی گھٹا میں اُڑرہی تھیں:

(۱) گوئیلوں (۲) بگلوں (۳) بجلیوں

(د) صبا سے ہو امراد ہے:

(۱) سمندر کی (۲) باغ کی (۳) ریگستان کی

(ه) بارش میں تیار ہوتے ہیں:

(۱) پھل (۲) پھول (۳) لباس

سوال ۴: سطر (الف) کے الفاظ سے سطر (ب) کے الفاظ کے جوڑے بنائیے:

(الف) چنگھار - بادل - دشت - صبا - رعد - جھڑی

(ب) صحرا - گرج - مینھ - ہوا - مور - گھٹا

سوال ۵: خالی چکیوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے:

(الف) آئی ہوا بھی لے کر ..... کوہ نگر سے

(ب) ہر کوہ ..... کوھی کہتے ہیں یوں سن اکر

(ج) جب یوں یوں پہنچی ..... میں ایک باری

(د) ہومست ..... گر جاؤ میں کی گوک آئی

## سرگرمیاں

(۱) اس نظم میں ہر بند کے قافیے اور دیفیں ایک چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آؤزیں کریں۔

(۲) جماعت میں گروپ بنا کر ہر گروپ ایک بند ترجمہ اور کے سے پڑھے۔

✿ نظم: اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو۔ اس کے لیے کسی موضوع کی قیدیں اور نہ ہی اس کی کوئی ہیئت مقرر ہے۔

- بند: دو سے زیادہ مصروفوں کا مجموعہ جس میں کوئی بات کامل کی جائے۔

- ترجمہ: ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں پانچ مصروف ہوں۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) طلبہ کو نظم، بند اور ترجمہ کے بارے میں مفصل بتائیے۔ (۲) طلبہ کی دونوں سرگرمیوں کی نگرانی اور رہنمائی کیجیے۔ (۳) اس نظم کی خوانندگی ترجمہ، درست تلفظ اور مناسب زیر و بم سے کیجیے۔



## علّا مہم محمد اقبال

ولادت: ۷ اگسٹ ۱۸۷۸ء وفات: ۲۷ نومبر ۱۹۳۸ء

شیخ محمد اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیال کوٹ سے ایف۔ اے پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم۔ اے کیا۔ انگستان سے بیرسٹری اور جرمنی کی ہائیائل برگ یونیورسٹی سے پی۔ اچ۔ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کر لی۔ بیرسٹری کا پیشہ اپنایا۔

”باغِ درا، ضربِ کلیم، بالِ جبریل“ اور ”ارمغانِ حجاز“ ان کے اردو کلام پر مشتمل ہیں۔ مغربی علوم سے گما حقة، آگہی کے ساتھ مشرقی علوم، قرآن، سیرت اور تاریخِ اسلام کے گھرے مطالعے نے ان کے میدانِ فکر کو اتنی وسعت بخشی تھی کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانون دان، سیاست دان، صوفی، تحریک پاکستان کی اہم شخصیت بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔

پہلے ”طن دوستی اور بعد میں مللت دوستی اور میمین سے انسان دوستی“ ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اقبال نے مسلمان کو مسلمان بننے اور خود کو پہچان کر عشق رسول ﷺ، یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا۔ نیز مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔



## دنیاے اسلام

حاصلاتِ تعلم: نظم پڑھ کر طلبہ: (۱) ردیف کی نشان دہی کر سکیں۔ (۲) نظم کا مرکزی خیال لکھ سکیں۔ (۳) مجازِ مرسل کی تعریف بیان کر سکیں اور پہچان سکیں۔ (۴) نئے الفاظ سیکھ سکیں۔

کیا سُماتا ہے مجھے ٹرک و عَرب کی داستان  
مجھ سے کچھ پہپاں نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز  
  
حکمتِ مغرب سے مِلّت کی یہ گفتگیت ہوئی  
ٹلکڑے ٹلکڑے جس طرح سونے کو کردیتا ہے گاز  
  
ہو گیا مانند آب ارزان مسلمان کا لہو  
مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانے راز  
  
ربطِ وضیطِ مِلّت بیضا ہے مشرق کی نجات  
ایشیا والے ہیں اس گُنتے سے اب تک بے خبر  
  
ایک ہوں مُسلم حرم کی پاسبانی کے لیے  
نیل کے ساحل سے لے کر تا بہ خاکِ کاشغر

جو کرے گا امتیازِ رنگ و خون مٹ جائے گا  
ترکِ خرگاہی ہو یا اعرابی والا گھر  
نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگئی  
اڑ گیا دنیا سے تو مانندِ خاک رہ گزر  
(ماخوذ از: ”کلیاتِ اقبال“)



سوال: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:  
(الف) مسلمانوں میں اتحاد کیوں ضروری ہے؟  
(ب) امتیازِ رنگ و خون سے کیا مراد ہے؟  
(ج) علامہ اقبال کے ان اشعار میں مسلم ملت کے لیے کیا پیغام ہے؟

سوال: درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے:  
پہاں - حکمتِ مغرب - گاز - داناے راز - ملتِ بیضا

سوال: درج ذیل اشعار کی وضاحت کیجیے:  
۔ حکمتِ مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی  
۔ ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز

۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہوگئی  
اڑ گیا دنیا سے تو مانندِ خاک رہ گزر

سوال: درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر (✓) کا نشان لگائیے:  
(الف) ملی اتحاد کے لیے تعصّب نقصان دہ ہے۔  
(ب) قومی ترقی کے لیے اتحاد کی کوئی ضرورت نہیں۔  
(ج) نظم کے ان اشعار میں قوانین ہیں مگر ردیف نہیں ہے۔  
(د) گاز، سونے کے ٹکڑے جوڑ دیتا ہے۔  
(ه) ملتِ بیضا کے رابط و ضبط میں مشرق کی نسبت ہے۔  
سوال: ۵: اپنی کتاب کی دوسری نظمیوں یا غزلوں کے پانچ اشعار کا لکھ کر ردیف اور قافیے کی نشان دہی کیجیے۔

- سوال: درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:  
(الف) اس نظم میں نیل سے مراد ہے:  
(۱) ندی (۲) نیلا رنگ  
(۳) دریا (۴) جھیل  
(ب) نظم ”دنیاے اسلام“ سے سبق ملتا ہے:  
(۱) نفاق کا (۲) اتحاد کا  
(۳) خوش اخلاقی کا (۴) جنگ کا  
(ج) اس نظم میں داستان سنانے کا ذکر ہے:  
(۱) ایران و توران کی (۲) ترک و عرب کی  
(۳) مشرق و مغرب کی (۴) شمال و جنوب کی  
(د) کاشغر شہر ہے:  
(۱) عربستان کا (۲) افغانستان کا  
(۳) ترکستان کا (۴) چین کا

(۶) جو اسی زرنگ و خوں کرے گا وہ:

(۱) باقی رہے گا (۲) خوش رہے گا

(۳) مٹ جائے گا (۴) ترقی کرے گا

درج ذیل شعر غور سے پڑھیے:

ناظراہ جہاں سے ترو تازہ رکھیے آنکھ

تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے

اس شعر میں صرف پارک کی تفریح کر لینے کو سارے جہاں کا ناظراہ کر لینا بتایا گیا ہے۔

حال آں کہ پارک تو تمام جہاں کے باغوں کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہاں نہیں

ہے۔ بس کل کے بد لے جزو کا نام لے کر اسے کل سمجھنا "مجازِ مرسل" کہلاتا ہے۔

سوال: اس نظم میں مجازِ مرسل کے طور پر کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں؟



(۱) طلبہ، علامہ اقبال کی کوئی نظم ٹیبلو کی صورت میں پیش کریں۔

(۲) ہر طالب علم علامہ اقبال کے پانچ اشعار یاد کر کے سنائے۔

\* ملی شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جس میں عالمِ اسلام کی ترقی اور فلاح کا ذکر ہو۔

ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) فکرِ اقبال کے اہم عناص میں الفاظ میں طلبہ کو سمجھا جائے۔

(۲) اسلام کے موضوع پر علامہ اقبال کی مزید نظموں کی تلاش میں طلبہ کی مدد کیجیے۔

محمد حفیظ نام، حفیظ ہی تخلص اور ابوالاثر کُنیت تھی۔ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں حاصل کی۔ لاہور آ کر ”ہونہار بک ڈپو“ قائم کیا اور علمی و ادبی کتابوں کی طباعت و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ دوسری جگہ عظیم کے دوران وہ دہلی میں سانگ پبلیٹی آرگانائزیشن (Song Publicity Organization) کے ڈائریکٹر جزل مقرر ہوئے۔

ان کے شعری ذوق کو مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی نے چکایا۔ پہلے غزل میں کہیں، پھر گیت لکھے۔ اس کے بعد ”شاہ نامہ اسلام“ جیسی شاہ کار نظم لکھی۔ ان کی نظموں کے مجموعے ”لغہ زار، سوز و ساز، تلبۂ شیرین“ ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ بھی آپ ہی نے لکھا۔



## ابوالاثر حفیظ جالندھری

ولادت: ۱۹۰۰ء وفات: ۱۹۸۲ء



## سر راہ شہادت

حاصلاتِ تعلم: نظم پڑھ کر طلبہ: (۱) مطلع کی تعریف کر سکیں اور نشان دہی کر سکیں۔  
 (۲) نظم کی تشریح کر سکیں۔ (۳) استعارے کے بارے میں جان سکیں۔

وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر  
 فدا ہونے چلا تھا اب سمجھتے کی صداقت پر

رسول پاک کے چہرے سے اک رقت نمایاں تھی  
 یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی

نگاہیں مُضطرب، ہلکا تبسم روئے زیما پر  
 تصوّر مطمئن تھا مرضی عرش معلّی پر

ہوا ارشاد اے عَمَّ جُجْسَة فام، بِسْمِ اللَّهِ  
 خدا حافظ ہے سمجھیے نصرتِ اسلام، بِسْمِ اللَّهِ

یہ اقدامِ شہادت بر سبیلِ حُسْنِ نیت ہے  
 محمد اُس پر راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے

یہ فرمائ کر دکھائی انہائی شانِ رحمائی  
 کہ بڑھ کر چوم لی سرکار نے حمزہ کی پیشانی  
 وُفُورِ نورِ حق سے چہرہ حمزہ چمک اُٹھا  
 جلا گُندن نے پائی یہ زیرِ خالص دمک اُٹھا  
 (ماخوذ از: ”شاہ نامہ اسلام“)



سوال۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) حضرت حمزہ گومیدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول پاک کی کیا کیفیت تھی؟
- (ب) حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائ کر حضرت حمزہ کی پیشانی چومی؟
- (ج) حضرت حمزہ نے کس معمر کے میں جامِ شہادت نوش کیا؟
- (د) اس نظم کا خلاصہ بیان کیجیے۔

سوال۲: درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی بتائیے:

رقت- روئے زیما- عرش معلّی- مشیت- حُسْنِ نیت

سوال۳: نظم کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔

غزل اور قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصروعوں کا ہم قافیہ  
 ہونا ضروری ہے۔ جیسے میر ترقی میر کی ایک غزل کا مطلع ہے:  
 س فقیرانہ آئے ہصد اک رچلے — میاں خوش رہو، ہم دعا کر رچلے  
 اس مطلع میں صد اور دعا قافیہ ہے جب کہ ”کر چلے“ رویف ہے۔ یاد رہے کہ رویف

کے بغیر بھی مطلع ہو سکتا ہے، جیسے علامہ اقبال کی غزل کا مطلع:

پھر چاندِ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن

مجھ کو پھر نغموں پر اکسانے لگا مرغ چمن

سوال: اپنی کتاب کے حصہ نظم سے پانچ مطلعے تلاش کیجیے۔

سوال: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) حضرت حمزہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے:

(۱) ماموں تھے (۲) خالو تھے

(۳) پچھا تھے (۴) تایا تھے

(ب) حضرت حمزہ کا اقدم شہادت تھا:

(۱) غلبہ اسلام پر (۲) شکستِ باطل پر

(۳) حسن نیت پر (۴) جگ میں فتح پر

(ج) اہل عرب کو امیر حمزہ کی اس خوبی پر ناز تھا:

(۱) خوشِ اخلاقی (۲) شان و شوکت

(۳) طاقت (۴) رحمِ دلی

(د) وہ صحابی جن کے شوقِ شہادت سے خوش ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی چویں:

(۱) حضرت طلحہ ہیں (۲) حضرت حمزہ ہیں

(۳) حضرت مصعب ہیں (۴) حضرت خالد ہیں

اس شعر کو غور سے پڑھیے:

کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے

رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے

اس شعر میں انیس نے واقعہ کر بلکے ذکر میں حضرت عباس کی میدانِ جگ میں

ترشیف آوری کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کی بہادری، بہیت اور عزم و حوصلے کی عظمت بیان کرتے ہوئے شیر کی جرأت اور بہادری کی مثال دی گئی ہے۔ شیر ایک درندہ ہے لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کی صفت سامنے رکھتے ہوئے حضرت عباس کی بہادری اور شجاعت بیان کی گئی ہے۔ یعنی شیر کا لفظ اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس طرح جو مثال یا تشبیہ دی جاتی ہے اسے ادب میں ”استعارہ“ کہتے ہیں۔ استعارے کے پانچ اركان ہوتے ہیں:

۱- مُستَعْار مِنْهُ: وہ شخص، فرد یا چیز جس سے مثال دی جائے یعنی شیر۔

۲- مُستَعْار لِهِ: وہ شخص، فرد یا چیز جس کے لیے مثال دی جائے، یعنی حضرت عباس۔

۳- وجہِ جامع: وہ صفت یا خوبی جو دونوں میں موجود ہو، یعنی شجاعت اور بہادری۔

۴- مُستَعْار: وجہِ جامع یا خوبی کو بیان کرنے کے لیے مُستَعْار مِنْهُ سے لیا گیا لفظ، یعنی شیر۔

۵- غرضِ استعارہ: وہ غرض یا مقصد جس کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا، یعنی

حضرت عباس کی شجاعت اور بہادری بیان کرنا۔

### سرگرمیاں

(۱) طلبہ مختلف مشاہیر اسلام کے بارے میں اختصار سے اظہارِ خیال کریں۔

(۲) ہر طالب علم الگ الگ مشاہیر اسلام کی فہرست مرتب کرے۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) اسلام کے لیے حضرت امیر حمزہ کی خدمات سے طلبہ کو آگاہ کیجیے۔

(۲) مشاہیر اسلام کے حوالے سے مزید معلومات کی تلاش میں طلبہ کی مدد کیجیے۔





## میر انیس

ولادت: ۱۸۰۳ء وفات: ۱۸۷۳ء

میر ببر علی نام، انیس تخلص، فیض آباد (ہندوستان) کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظمؑ کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انیس نے ہزاروں نوے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے ”واقعہ کربلا“ کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردان نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا ہے۔ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ انتقال کی خبر سننے ہی لوگوں کا بحوم ان کے گھر اُمڈ آیا۔ ان کی تدفین گھر ہی میں ہوئی۔ مریضہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔

## گرمی کی شدت

حاصلاتِ قائم: یہ نظم پڑھ کر طلبہ: (۱) تشبیہ کی تعریف بیان کر سکیں اور نشان دہی کر سکیں۔  
 (۲) مسدس کے بارے میں جان سکیں۔ (۳) مریثے کے بارے میں جان سکیں۔

وہ لُو، وہ آفتاب کی حدّت، وہ تاب و تَب  
 کالا تھا رنگِ دھوپ سے دن کا مثالِ شب  
 خود نہرِ عالمہ کے بھی سُوکھے ہوئے تھے لب  
 خیسے جو تھے حبابوں کے پتے تھے سب کے سب  
 اُڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا  
 کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا  
 آب رواں سے مُنھ نہ اٹھاتے تھے جانور  
 جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائرِ ادھر اُدھر  
 مردم تھے سات پردوں کے اندر عرق میں تر  
 خس خانہِ مژہ سے نکلتی نہ تھی نظر  
 گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں  
 پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں



کوسوں کسی شجر میں نہ گُل تھے نہ بُرگ و بار  
ایک ایک نخل جل رہا تھا صورتِ پچار  
ہنستا تھا کوئی گُل نہ مہلتا تھا سبزہ زار  
کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار  
گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے  
پستے بھی مثلِ چہرہِ مدقوق زرد تھے  
شیرِ اُٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے  
آہو نہ منہ نکلتے تھے سبزہ زار سے  
آئینہِ مہر کا تھا ملکدارِ عمار سے  
گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے  
گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر  
بھُن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر  
(ماخوذ از: "کلیاتِ آنپس")



- سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:  
(الف) اس نظم کی بہیت بتائیے۔  
(ب) شاعر نے پودوں پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کیسے کی ہے؟  
(ج) نظم کے دوسرے بندکی وضاحت کیجیے۔  
(د) اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔

- سوال ۲: درج ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی بتائیے:  
حدّت- طائر- خانہ موہ- برگ و بار- ملکدار
- سوال ۳: خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھ کر مصیرِ مکمل کیجیے:  
(الف) اُڑتی تھی..... خشک تھا چشمہ حیات کا  
(ب) جنگل میں چھپتے پھرتے تھے..... ادھر ادھر  
(ج) خیسے جو تھے..... کے قتے تھے سب کے سب  
(د) گرمی یہ تھی کہ..... سے دل سب کے سرد تھے  
علامہ اقبال کے درج ذیل شعر کو نور سے پڑھیے:  
سے جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چن میں  
یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں  
اس شعر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بس کسی ایک  
چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے: موتویوں جیسے دانت، چاند جیسا  
چہرہ یا جھیل جیسی آنکھیں۔ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے، اُسے مُشبَّه اور جس چیز سے  
تشبیہ دی جائے اُسے مُشبَّه بہ کہتے ہیں۔
- سوال ۴: آپ اس طرح کا کوئی شعر سنائیے جس میں تشبیہ دی گئی ہو۔
- سوال ۵: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (ا) کا نشان لگائیے:  
(الف) کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کہلاتی ہے:  
(۱) غزل (۲) مرثیہ (۳) مناجات (۴) تصیدہ  
(ب) عالمہ ہے:  
(۱) نہر (۲) دریا (۳) چشمہ (۴) سمندر  
(ج) "دل سرد ہونا" تو اعد کے لحاظ سے ہے:  
(۱) استعارہ (۲) تشبیہ (۳) محاورہ (۴) روزمرہ

(د) کتاب میں دی ہوئی نظم "گرمی کی شدت" میں بند ہیں:


(۱) دو (۲) تین (۳) چار (۴) پانچ

(ه) میرا نیس کی نظم میں گرمی کا ذکر ہے:

(۱) دمشق کی (۲) کربلا کی (۳) کوفہ کی (۴) ککہ کی

## جمیل الدین عالیٰ

ولادت: ۱۹۲۵ء وفات: ۲۰۱۵ء



نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ دہلی سے بی۔ اے کیا۔ محکمہ انکمٹیکس میں افسر ہوئے۔ پھر ایوان صدر میں بھی افسر پہ کار خاص، نیشنل بینک میں سینٹرائیز یکٹو، وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ مجلس قائدہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئر مین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں۔ عالی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ ٹیلی وژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپنیر رہے۔ پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روپا، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں ثرکت کی۔ غزلوں، دوہوں، سفرناموں، کالموں کے متعدد مجموعے شائع ہوئے۔ کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جاملے۔ ”دنیا مرے آگے، تماشا مرے آگے، تقارخانے میں، لاحاصل اور جیوے جیوے پاکستان“، جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں۔



## سرگرمیاں

(۱) چاروں موسووں کی کیفیات اپنے الفاظ میں بیان کریں۔

(۲) میرا نیس کے مزید اشعار کتابوں سے تلاش کر کے لکھیں اور استاد/استانی کو دکھائیں۔

\* مرثیہ، کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو کہتے ہیں اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔

\* آپ جانتے ہیں کہ ایک شعر دو مصروعوں پر مشتمل ہوتا ہے مگر ایک بند کے لیے دو سے زیادہ مصروعوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے نظم ”گرمی کی شدت“ کا ہر بند چھے مصروعوں پر مشتمل ہے۔ چھے مصروعوں کی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) طلبہ سے میرا نیس کے دیگر شعر پڑھوایے۔ (۲) صفتِ مرثیہ کے بارے میں ضروری باتیں طلبہ کو بتائیے۔ (۳) طلبہ کو مسدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔



جھیل گئے دکھ جھینے والے اب ہے کام ہمارا  
ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا  
پاکستان، پاکستان، جیوے پاکستان  
(ماخوذ از: ”عالیٰ جی کی نغمہ نگاری“)



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) ”اک بھی ہوئی چھلواری“ شاعرنے کے کہا ہے؟
- (ب) ”جھیل گئے دکھ جھینے والے“ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
- (ج) اس نغمے کے پہلے بند کی تشریع کیجیے۔

(د) شاعرنے آخری بند میں کیا پیغام دیا ہے؟

سوال ۲: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

- (الف) ہماری دُھن ہے:

(۱) ایمان (۲) اتحاد

(۳) پاکستان (۴) ترقی

(ب) بکھرے ہوؤں کو ایک مرکز پر لایا:

(۱) ہمارا قائد (۲) ہمارا پرچم

(۳) ہمارا نغمہ (۴) ہمارا وطن

## جیوے جیوے پاکستان

حاصلاً تعلیم: یہ نظم پڑھ کر طلبہ: (۱) قومی نغمہ پڑھ سکیں۔ (۲) دوسرے شعرا کے نغمے لکھ کر لاسکیں۔  
(۳) نغمہ نوانی کے مقابلوں کی تیاری کر سکیں۔ (۴) ملی اور توی نغموں میں فرق کر سکیں۔

جیوے، جیوے، پاکستان  
پاکستان، پاکستان، جیوے  
پاکستان، پاکستان، جیوے

جیوے ..... جیوے  
جیوے ..... جیوے

مہکی مہکی روشن روشن پیاری پیاری نیاری  
رنگ برنگ چھولوں سے اک بھی ہوئی چھلواری  
پاکستان، پاکستان، جیوے پاکستان

من پچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سُر بکھرائے  
سُننے والے سینیں تو اُن میں ایک ہی دُھن لہرائے  
پاکستان، پاکستان، پاکستان، جیوے پاکستان

بکھرے ہوؤں کو، بکھرے ہوؤں کو، اک مرکز پر لایا  
کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا  
پاکستان، پاکستان، پاکستان، جیوے پاکستان

(ج) ایک ہے نام ہمارا سے مراد ہے:

(۱) ایران (۲) پاکستان

(۳) سعودی عرب (۴) چین

(د) ”ستاروں کے جھرمنٹ“ سے شاعر کی مراد ہے دنیا کے:

(۱) لوگ (۲) براہم

(۳) سمندر (۴) ممالک

سوال ۳: درج ذیل الفاظ اور مرکبات کے معنی لکھیے:

مہکی مہکی - روشن روشن - نیاری - پھلواری - جھرمنٹ

سوال ۴: درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے:

پچھی - جھرمنٹ - دھن - مرکز - دکھ

سوال ۵: اس نغمہ کا خلاصہ بیان کیجیے۔

### سرگرمیاں

(۱) طلبہ یہ نغمہ جماعت میں کورس کی صورت میں گائیں۔

(۲) طلبہ اپنی پسند کا کوئی ملی اور قومی نغمہ یاد کر کے سنائیں۔

❖ قوی شاعری سے مراد وہ مقصدی شاعری ہے جو قوی امیگوں کی ترجمان ہوا اور جس میں قوم کا درد، قوم کی خوش حالی کی تمنا اور ترقی کی آزرو ہو۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) بچوں کے مابین نغمہ خوانی کا مقابلہ کرائیے۔ (۲) بین المدارس، بورڈ، بین الصوبائی

اور قومی سطح کے مقابلہ نغمہ خوانی کے لیے مشق کرائیے۔

(۳) طلبہ کو بتائیے کہ ملی نغمے اور قومی نغمے میں کیا فرق ہے۔



## دلاور فکار

ولادت: ۱۹۲۹ء وفات: ۱۹۹۸ء

نام دلاور حسین تھا۔ بدایوں میں پیدا ہوئے۔ یہیں ابتدائی تعلیم پائی۔ آگرہ یونیورسٹی سے ایم۔ اے اردو، انگریزی اور معاشیات میں کیا۔ اس کے بعد بھارت کر کے کراچی آئے اور عبداللہ ہارون کالج میں بہ حیثیت استاد اردو پڑھانے لگے۔ آپ نے شعر گوئی کا آغاز ۱۹۷۳ء میں کیا۔

دلاور فکار ایک شاعر، مزاح نگار اور نقاش تھے۔ آپ کی غزلوں کا مجموعہ ”جادے“ اور ایک طویل نظم ”ابوقلموں کی مصری“ بہت مقبول ہوئی۔ مزاحیہ شاعری میں قطعوں اور ربانیوں کا مجموعہ ”ستم ظریفیاں“ بہت دل چسپ ہے۔



## کرکٹ اور مشاعرہ

حاصلات تعلم: نظم پڑھ کر طلبہ: (۱) مزاحیہ شاعری سے مخطوط ہو سکیں۔  
 (۲) مختلف شعر کی مزاحیہ نظیمیں پڑھ کر سنائیں۔ (۳) مزاحیہ نظیموں کا انتخاب کر سکیں۔

مشاعرے کا بھی تفریح ”ایم“ ہوتا ہے  
 مشاعرے میں بھی کرکٹ کا ”گیم“ ہوتا ہے

وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر  
 یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے ”امپائر“

وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے  
 یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے

وہاں بھی کھیل میں ”نو بال“ ہو تو ”فائل“ ہے  
 یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو ”فائل“ ہے

وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان  
 یہاں ہر ایک ”پلیئر“ بے جائے خود کپتان

وہاں جو لوگ اندازی ہیں وقت کاٹتے ہیں  
 یہاں بھی کچھ تُشاعر دماغ چاٹتے ہیں

مرے خیال کو اہل نظر کریں گے ”مچ“  
 مشاعرہ بھی ہے اک طرح کا ”کریکٹ مچ“  
 (ماخوذ از: گلیاتِ دل اور فگار)



سوال۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) شاعر نے مشاعرے اور کرکٹ کا موازنہ کس طرح کیا ہے؟
- (ب) اس نظم میں کس صنف میں شاعری کی گئی ہے؟
- (ج) ”گلے کے سہارے کلام چلتا ہے“ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟
- (د) نظم کے آخری شعر کا کیا قانینہ ہے؟
- (ه) ”مشاعرہ بھی ہے اک طرح کا کریکٹ مچ“ یہ بات درست ہے یا غلط اور کیوں؟  
 بتائیے۔

سوال۲: شاعر نے ”شاعر“ اور ”امپائر“ کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟

سوال۳: اس نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔

- سوال ۴: درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے:  
تفریغ- صدر شیں- ریاض مسلسل- ابہام- مشاعر
- سوال ۵: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:  
(الف) اس نظم میں لفظ ”مشاعرہ“ سے مراد ہے:  
(۱) شعر سننے سنانے کی محفل      (۲) کرکٹ کا کھیل  
(۳) مصروفیت      (۲) صرف تفریغ  
(ب) کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی ہوتا ہے:  
(۱) امپائر      (۲) کپتان      (۳) صدر شیں      (۴) پلیئر  
(ج) یہ نظم مضمون کے لحاظ سے ہے:  
(۱) سنبھالنے      (۲) علمی      (۳) مزاجیہ      (۴) سیاسی  
(د) اس نظم میں پلیئر سے مراد ہے:  
(۱) کھلاڑی      (۲) شاعر      (۳) کپتان      (۴) امپائر
- سوال ۶: آپ کا ”پسندیدہ کھیل“ کون سا ہے؟ ایک سو الفاظ کا مضمون لکھیے۔

### سرگرمی

طلبہ مختلف مزاجیہ شعرا کے دیوان لے کر ان میں سے کوئی مزاجیہ نظم منتخب کر کے اپنی ڈائری میں لکھیں اور استاد/استانی کو دکھائیں۔


#### ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) کسی اور شاعر کی مزاجیہ نظم لَا کر طلبہ کو سنا جائے۔  
(۲) جماعت میں ایک مزاجیہ مشاعرہ طلبہ کے ذریعے منعقد کیجیے۔



## میر تقی میر

ولادت: ۱۷۲۳ء وفات: ۱۸۱۰ء



میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر تقی ایک درویش صفت انسان تھے۔ میر ابھی نو عمر ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آگئے۔ یہاں سرانج الدین آرزو کے شاگرد ہو گئے۔ دہلی کے حالات جب بہت خراب ہو گئے تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے پاس آئے۔ انہوں نے میر کی بڑی قدر کی اور وظیفہ مقرر کر دیا۔ میر نے لکھنؤ ہی میں وفات پائی۔

کو خدا یئے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انسانی جذبات، دروغ، خودداری، توکل، قیامت اور دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہے۔ ان کے علمی سرمائے میں بچھے دیوان، اردو شعر اکا ایک تذکرہ، متعدد مشنویاں اور مرثیے، ایک سوانح حیات اور ایک فارسی دیوان شامل ہیں۔ میر تقی میر کا سارا کلام ”کلیاتِ میر“ کی صورت میں موجود ہے۔ یہ غزل اسی گلیات سے لی گئی ہے۔



## غزل

حاصلاتِ تعلّم: یہ غزل پڑھ کر طلبہ: (۱) مطلع کی تعریف اور نشان دہی کر سکیں۔  
 (۲) غزل سے مخطوط ہو سکیں۔ (۳) نظم اور غزل کا فرق جان سکیں۔

نقیرانہ آئے صدا کر چلے  
میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے

جو تجھ بُن نہ جینے کو کہتے تھے ہم  
سو اس عہد کو اب وفا کر چلے  
دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا  
ہمیں آپ سے بھی جُدا کر چلے

جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی  
حقِ بندگی ہم ادا کر چلے

کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر  
جبان میں تمُ آئے تھے، کیا کر چلے؟

(ماخوذ از: گلیاتِ میر)



## مشق



سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) غزل کے مطلع کی وضاحت کیجیے۔

(ب) آپ کو اس غزل کا کون سا شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں؟

(ج) درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے:

فقیرانہ-عہد-بے خود-جبیں-حقِ بندگی

(د) ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیے۔

سوال ۲: اس غزل کے مصروع ذہن میں رکھتے ہوئے کالم (الف) کے الفاظ کا لمب (ب) سے ملائیے:

(ب)

کیا کر چلے  
ہم دعا کر چلے  
کہ بے خود کیا  
صدار کر چلے

(الف)

دکھائی دیے یوں  
جبان میں تم آئے تھے  
فقیرانہ آئے  
میاں خوش رہو

سوال ۳: درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) اس غزل میں لفظ ”میاں“ استعمال ہوا ہے:

(۱) بزرگ کے لیے (۲) شوہر کے لیے (۳) ذات کے لیے (۴) پچھوں کے لیے

(ب) میر کے کلام کی نمایاں خصوصیت ہے:

(۱) سنجیدگی (۲) درد و غم (۳) مزاح (۴) شنگشی

(ج) اس غزل میں شاعرنے بات کی ہے:

(۱) حقِ بندگی کی (۲) جبیں کی (۳) دعا کی (۴) وفا کی

(د) کسی ایک چیز کو دوسرا چیز کے مانند قرار دینا کہلاتا ہے:

(۱) مبالغہ (۲) کناہ (۳) تشبیہ (۴) تمجیح

\* غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مصروع  
ہم قافیہ ہوں۔

سوال ۲: نصابی کتاب میں شامل غزاوں کے کوئی دو مطلع کھیجے جو آپ کو پسند ہوں۔

### سرگرمیاں

(۱) طلبہ انٹرنیٹ کی مدد سے میر کا کلام تلاش کریں۔

(۲) طلبہ میر کے پانچ مطلعوں اور پانچ مقطعوں پر مشتمل چارٹ تیار کریں۔

(۳) طلبہ میر قی میر کی تصویریں کے ایک شعر کے ساتھ کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔

\* غزل عربی زبان کا لفظ کا ہے۔ اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا ہے۔ عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ایسی صفتِ خن ہے جو مخصوص عناصر تربیتی پر مشتمل مخصوص بیت رکھتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے پہلے شعر کے دونوں مصروع ہم قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے سوابقی اشعار میں ہر دوسرے مصروع میں قافیہ ہونا ضروری ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ بہ شرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جاسکتے ہیں۔

\* نظم، تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی بیت متعین ہے۔

### ہدایات برائے اساتذہ:


- (۱) کلام میر کی تلاش میں طلبہ کی مدد کیجیے۔ (۲) حیات میر کے چند دلچسپ پہلوؤں سے طلبہ کو آگاہ کیجیے۔ (۳) طلبہ کو صفتِ غزل کی اہمیت بتائیے۔ (۴) طلبہ کو بتائیے کہ میر کو خدا نے خن کیوں کہا جاتا ہے۔

## خواجہ حیدر علی آتش

ولادت: ۱۷۶۲ء وفات: ۱۸۲۷ء



خواجہ حیدر علی آتش، خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے، دلی (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیض آباد میں آرہے۔ کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ کوئی سر پرست نہ تھا۔ مالی حالت بہت خراب تھی۔ اس لیے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر لی۔ آپ ان کے ہم راہ لکھنوا آگئے۔ شاعری میں مصحح کے شاگرد بن گئے۔ بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، نہ کسی کا کوئی قصیدہ لکھا۔ تا ہم بادشاہ از رہ قدر دانی آسی روپے ماہانہ انھیں پیش کرتا تھا۔ نہایت منکسر المزاج اور خلائق انسان تھے۔ ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی ہے۔



## غزل

حاصلاتِ تعلم: یہ غزل پڑھ کر طلبہ: (۱) کنائے کی تعریف بیان کر سکیں اور شعروں سے مثال دے سکیں۔ (۲) نئے الفاظ کے معنی لکھ سکیں۔

وہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے  
کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے

زمین چن گل کھلاتی ہے کیا کیا  
بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے

نہ گورِ سکندر، نہ ہے قمرِ دارا  
مشے نامیوں کے نشان کیسے کیسے

غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرماء  
ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے

کرے جس قدر شکرِ نعمت وہ کم ہے  
مزے لُوتی ہے زبان کیسے کیسے

(ماخوذ از: دیوان آتش)

## مشق

سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب پڑھیے:

- (الف) آتش کی غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند آیا؟ وجہ چھی بتائیے۔  
 (ب) اس غزل میں لفظ ”کیسے کیسے“ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟  
 (ج) اس غزل میں استعمال ہونے والے محاورات لکھیے۔  
 (د) اس غزل میں صفتِ تکرار کے لیے کون سے لفظ آئے ہیں؟  
 (ه) اس غزل کے قافية اور دیف کے الفاظ کون سے ہیں؟

سوال ۲: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) لفظ آتش کے لغوی معنی ہیں:

- (۱) پیاسا (۲) تسلی دینے والا (۳) پچاری  
 (ب) پہلے شعر میں لفظ ”کلام“ کے معنی ہیں:

- (۱) پیغام (۲) شعر (۳) خیال  
 (ج) لفظ ”گلِ کھلانا“ قاعدہ کے لحاظ سے ہے:

- (۱) اسم صفت (۲) مرکب اضافی (۳) مرکب عطفی (۴) محاورہ  
 (د) لفظ اندوہ کے معنی ہیں:

- (۱) شکر (۲) قدر (۳) خوشی (۴) غم  
 (س) خالی جگہوں کو درست لفظ سے پُر کیجیے:

(الف) نے گور سندر نہ ہے..... دارا

(ب) زمینِ چمن ..... کھلاتی ہے کیا کیا

(ج) کلام آتے ہیں ..... کیسے کیسے

(د) کرے جس قدر ..... نعمت وہ کم ہے

سوال ۳: درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے:

وہن - گور - گماں - رنج - حمال

یہ شعر غور سے پڑھیے:

زمینِ چمنِ گلِ کھلاتی ہے کیا کیا — بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے  
 اس کے دوسرا مرصعے میں آسمان کا رنگ بدلنا لکھا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ  
 اس سے مراد زمانے کی گردش ہے جس کے معنی یہے جائیں گے کہ قسمت میں کیا کیا  
 تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح بات کرنے کو جس میں کہ حقیقت بیان نہ کی جائے اور  
 اس کے بدلتے اشارے میں بات کی جائے، ادب میں ”کنایہ“ کہتے ہیں۔ ایک اور  
 مثال دیکھیے:

دل زمانے کے ہاتھ سے سالم — کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا  
 اس شعر میں زمانے سے مراد اہل دنیا ہیں۔ یعنی دنیا والے ہر ایک کوئی نہ کوئی دُکھ  
 دیتے ہیں۔ یہ بھی کنایہ ہے۔

سوال ۵: آپ اس طرح کے تین شعر تلاش کیجیے جن میں اصل یا حقیقی لفظ استعمال کرنے کے  
 بدلتے کنائے میں بات کی گئی ہو۔

### سرگرمیاں


(۱) طلبہ لاہوری سے مختلف شعراء کے دیوان لے کر اس طرح کے شعر تلاش کر کے لکھیں، جن میں  
 کنایہ پایا جاتا ہے۔

(۲) طلبہ آتش کی کوئی ایک غزل زبانی باد کریں۔

#### ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کو مختلف شعراء کے دیوان دے کر انھیں اشعار میں کنایہ تلاش کرنے میں مدد  
 کیجیے۔ (۲) آپ خود بھی ایسے شعر تلاش کر کے طلبہ کو سنائیے اور سمجھائیے۔





## مرزا غالب

(بہ نیشیت شاعر)

ولادت: ۷۹۴ء وفات: ۱۸۲۹ء

نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان آگرہ (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ غالب تخلص اور ”مرزا نوشہ“، عرفیت تھی۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے اندازو خیالات کی حامل تھی لیکن آپ نے فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ ندرت بیان، تتوع اور رفتہ خیال اُن کی شاعری کا خاصہ ہے۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوانِ غالب اور گلیاتِ غالب (فارسی) بہت مشہور ہیں۔

غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور ”دیپر المُلْك“، نظام بنگ، ”بُحْمُ الدُّولَة“ کے خطابات دیے۔

## غزل

حاصلاتِ تعلیم: یہ غزل پڑھ کر طلبہ: (۱) مقطع کی تعریف کر سکیں اور فرق کر سکیں۔

(۲) لقب، عرفیت اور خطاب میں فرق کر سکیں۔ (۳) الفاظ و تراکیب کا مفہوم بیان کر سکیں۔

ہر ایک بات پہ کہتے ہوتے کہ ”تو کیا ہے؟“  
تمھی کہو کہ یہ اندازِ گفتگو کیا ہے؟  
چپک رہا ہے بدَن پر لہو سے پیرا ہن  
ہماری جیب کو اب حاجتِ رُفُو کیا ہے؟  
جلہ ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا  
گریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے؟  
رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل  
جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟  
رہی نہ طاقتِ گفتار، اور اگر ہو بھی  
تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے؟  
ہوا ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے ارتاتا  
وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟  
(ماخوذ از: ”دیوانِ غالب“)



## مشق

سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) مقطع میں ”شکا مصاحب“ کہہ کر کے طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے؟

(ب) اس غزل میں کون کون سے قوافی استعمال ہوئے ہیں؟ ردیف کی نشانہ ہی بھی کہیجیے۔

(ج) کلامِ غالب کی پانچ نمایاں خصوصیات بیان کیجیے۔

(د) غزل کے پہلے اور چوتھے شعر کی وضاحت کیجیے۔

(ه) درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے:

پیراہن- حاجت رو- مصاحب- قائل- طاقت گفتار- جتو

سوال ۲: درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) غزل میں مطلع نہیں ہوتا۔ ( )

(ب) مطلع کے دونوں مصروعوں میں قافیہ ضروری ہے۔ ( )

(ج) قافیے سے پہلے آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ ( )

(د) ایک بند میں دو مصروع ہوتے ہیں۔ ( )

(ه) جس شعر میں شاعر کا نام یا تخلص ہو، مطلع کہلاتا ہے۔ ( )

سوال ۳: درج ذیل درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) اس غزل کے مقطعے میں موجود ہے شاعر کا:

(ا) خطاب (۲) نام (۳) تخلص (۴) اقب

(ب) اس غزل میں لفظ ”پیراہن“ کا مطلب ہے:

(۱) لباس (۲) بستر (۳) لہو

(ج) حروف و حرکات کا مجموعہ جو شعر میں ردیف سے پہلے آئے کہلاتا ہے:

(۱) تخلص (۲) قافیہ (۳) مطلع (۴) مقطع

- (د) اس غزل کی ردیف ہے:  
 (۱) پیراہن (۲) گفتگو (۳) کیا ہے (۴) قائل
- آپ میر قی میر اور غالب کی غزوں کے آخری اشعار دیکھیے:  
 کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر  
 جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے  
 ہوا ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا  
 وگرنہ شہر میں غالب کی آمد کیا ہے  
 غزل کے آخری شعر میں شعرا اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔  
 آپ نے دیکھا کہ ان دونوں شعروں میں میر اور غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا  
 ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطعہ کہتے ہیں۔

### سرگرمیاں

- (۱) طلبہ غالب کی تصویر اُن کی کسی غزل کے مقطعے کے ساتھ کمرہ جماعت میں آؤزیں کریں۔  
 (۲) طلبہ غالب کی کوئی پسندیدہ غزل انتہنیت یا کسی کتاب سے تلاش کر کے لکھیں۔  
 (۳) ہر طالب علم غالب کے کم از کم دو شعرياد کر کے سنائے۔

ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کو غالب کے مزید اشعار سنائیے۔ (۲) غالب کی غزل میں موجود بان و بیان کی خوبیوں سے طلبہ کو آگاہ کیجیے۔ (۳) خطاب، عرفیت اور لقب کے بارے میں بچوں کو بتائیے۔



## بہادر شاہ ظفر

ولادت: ۷۷۵ء وفات: ۱۸۶۲ء



بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ، دہلی (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام ابوظفر نصر الدین صدیقی محمد بہادر شاہ ظفر تھا۔ آپ کے والد کا نام اکبر شاہ ثانی تھا۔ ان کا تعلق شاہی مغل خاندان سے تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا شمار اعلیٰ پائے کے شعراء میں ہوتا ہے۔ شاعری میں ان کے پہلے استاد ”ذوق“ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد غالب کو استاد بنایا۔ آپ کی شاعری میں درد اور تکلیف کے احساسات نظر آتے ہیں۔ انگریزوں نے آپ کو ۱۸۵۷ء میں گرفتار کر کے رکون بھیج دیا۔ وہیں قید میں ۸۲ سال کی عمر میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہیں۔ ان کے شعری سرمائے میں ”دیوان ظفر“ اور ”کلیاتِ ظفر“ شامل ہیں۔ یہ غزل بھی اسی دیوان سے لی گئی ہے۔



## غزل

حاصلاتِ تعلم: یہ غزل پڑھ کر طلبہ: (۱) اسم مصغر اور اسم مکبّر کو پہچان سکیں۔ (۲) ذمین الفاظ کا استعمال کر سکیں۔ (۳) تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ (۴) کسی فن پارے کی فنی و فکری خوبیوں اور نقص (حسن و قبح) کے پیش نظر تشریح کر سکیں۔

لگتا نہیں ہے جی مرا اُجڑے دیار میں  
کس کی بنی ہے عالم ناپاندار میں  
کہہ دو ان حستوں سے کہیں اور جا بیسیں  
اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں  
کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغ باں  
یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں  
بُلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلہ  
قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں  
کتنا ہے بد نصیب ظفرِ دن کے لیے  
دو گز زمین بھی نہ ملی گوئے یار میں  
(ماخوذ از: ”دیوان ظفر“)

## مشق



سوال: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) اس غزل کے تیرے اور پانچویں شعر کی تشریح کیجیے:
- (ب) آخری مغل بادشاہ کون تھا؟
- (ج) اس غزل میں شاعر نے ”بلبل“ کسے کہا ہے؟
- (د) شاعر نے قید کی کیا کیفیت بیان کی ہے؟ وضاحت کیجیے۔
- (ه) اس غزل میں شاعر نے کانٹوں سے کس کو تشبیہ دی ہے؟

سوال: خالی جگہوں میں مناسب الفاظ اکھر کر مصروع مکمل کیجیے:

- (الف) لگتا نہیں ہے جی مرا اُجڑے..... میں۔
- (ب) اتنی جگہ کہاں..... داغ دار میں
- (ج) قسمت میں..... لکھی تھی فصل بہار میں
- (د) دو..... زمین بھی نہ ملی گوئے یار میں

اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی آوازیں ایک جیسی ہیں، مگر املاء میں اور معانی کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ:

سدرا-صدرا، عام-آم، صورت-سورت

سوال: آپ ایسے کوئی بھی پانچ الفاظ اپنی کاپی میں تحریر کیجیے۔

ان جملوں کو پڑھیے:

لکڑہارے نے بڑے بڑے لکڑ، لکھاڑے سے پھاڑ کر ایندھن کے لیے خاصی مقدار میں لکڑی جمع کر دی۔



ان لفظوں کو غور سے پڑھیے:

کہاں۔ جی۔ نی۔ عالم

یہ الفاظ اس غزل میں جن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ان لفظوں کو اور معنی بھی ہیں۔ یعنی کہاں (سوالیہ) جی (اقرار یہ) بنی (بہ طور تعمیر) اور عالم (کیفیت) کے معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے لفظوں کو ذمہ معین کہتے ہیں سوال نمبر ۷: نصابی کتاب میں سے کوئی پانچ ذمہ معینیں الفاظ تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔

### سرگرمیاں

- (۱) یہ غزل پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا تاثر آتا ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔
- (۲) آخری مغل بادشاہ پر ایک مختصر نوٹ اپنی کاپی میں لکھیے۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

- (۱) طلبہ کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی جگہ آزادی کے بارے میں بتائیے۔
- (۲) اس غزل کا پس منظر طلبہ کو سمجھائیے کہ یہ غزل دورانِ قید شاعر نے لکھی اور قید کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ نیز آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اہمیت بتائیے۔



- ۲- محفل میں بلوچ قوم کے سردار بڑے بڑے پگڑ سر پر باندھے ہوئے تھے جب کہ عام بلوچ بھی پگڑی کے بغیر نہیں تھے۔

مندرجہ بالا جملوں میں آپ نے دیکھا کہ لکڑ اور پگڑ، بڑی اور لکڑی اور گپڑی کے لفظ چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ قواعد میں بڑی جامات ظاہر کرنے والے لفظ کو اسم مکبر اور چھوٹی جامات ظاہر کرنے والے لفظ کو اسم مصغر کہتے ہیں۔

سوال ۳: مندرجہ ذیل الفاظ میں مصغر اور مُمَبَّر اسماء الگ الگ کر کے لکھیے:

- |                |                 |                |
|----------------|-----------------|----------------|
| صندوچی - صندوق | لکھاڑی - لکھاڑی | چمٹا - چمٹی    |
| دیگ - دیچی     | کڑاہ - کڑاہی    | سیارہ - سیارچہ |

ان لفظوں کو غور سے پڑھیے:

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| (۱) اجڑے دیار - عالم ناپلڈار | (۲) جابیں - اتنی جگہ |
| (۳) دفن - زمین               | (۴) بلبل، صیاد، قید  |


آپ نے دیکھا کہ ان لفظوں میں سے کچھ لفظ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً: ”اجڑے دیار“ کا معنی کے لحاظ سے تعلق ”جابیں“ سے ہے۔ ایسے تعلق والے لفظوں کے استعمال کو رعایت لفظی کہتے ہیں۔

سوال ۴: درج ذیل لفظوں کے رعایت لفظی کے لحاظ سے جوڑے بنائیے:

ہونٹ - خوش بو - راہ - تحکم ہار کے - گل - نام - غنچہ - ہم سفر - جذبہ ناکام - کانٹا

سوال ۵: درست بیان پر (✓) کا نشان لگائیے:

- |       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| (الف) | یہ غزل بہادر شاہ ظفر کی ہے۔           |
| (ب)   | دو گز زمین مل گئی کوئے یار میں۔       |
| (ج)   | بلبل کو باغ بار سے نہ صیاد سے گلہ ہے۔ |
| (د)   | لگ گیا دل مرا اجڑے دیار میں۔          |
| (ہ)   | قسمت میں آزادی لکھی تھی فصل بہار میں۔ |



## حضرت موهانی

ولادت: ۱۸۷۵ء وفات: ۱۹۵۱ء

نام سید فضل الحسن، والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ سلسلہ نسب حضرت امام علی موسیٰ کاظمؑ سے ملتا ہے۔ موهانی (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ میٹرک وہیں سے کیا۔ پھر بی۔ اے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے کیا۔ تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے باغی قرار دیے گئے اور کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ آپ حق گو، بے باک اور درویش مزاج انسان تھے۔ سیاست میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ شعروادب کی خدمت بھی کی۔ آپ کا انتقال لکھنؤ میں ہوا۔

حضرت موهانی جدید اندازِ غزل کے شاعر تھے۔ صرفِ غزل کے حوالے سے ان کی شانِ دار خدمات کے سبب انھیں رئیس المُشَفَّر لین کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک رسالہ ”اردو ی مُعلّی“ جاری کیا۔ آپ کا کلامِ کلیاتِ حضرت کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ”نکاتِ ختن“ آپ کی مشہور کتاب ہے۔



## غزل

حاصلاتِ تعلم: یہ غزل پڑھ کر طلبہ: (۱) نئے الفاظ و مرکبات کے معنی لکھ سکیں۔  
(۲) نئے الفاظ کی مجع لکھ سکیں۔ (۳) اشعار کی تترتیح کر سکیں۔

دعا میں ذکر کیوں ہو مددعا کا  
کہ یہ شیوه نہیں اہلِ رضا کا  
  
طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا  
کرم تیرا ہے اک دریا عطا کا  
  
ثناں پر ہوئے اچھے رہے ہم  
تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا  
  
گنہ گارو! چلو، عفو الہی  
بہت مشتاق ہے عرضِ خطا کا  
  
جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حضرت  
تمھیں حق ان سے کیا چون و چرا کا  
(ماخوذ از: کلیاتِ حضرت)



سوال: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

(الف) درج ذیل اشعار کی تشریع کیجیے:

س دعا میں ذکر کیوں ہو مُدَّ عَا کا کہ یہ شیوه نہیں اہلِ رِضا کا

گنہ گارو! چلو، عفْوُ الٰہِ بہت مشتاق ہے عرض خطا کا

(ب) قافیہ کی تعریف کیجیے اور ذیل کے اشعار میں قوافی کی نشان دہی کیجیے:

س شار اُن پر ہوئے اپھے رہے ہم تقاضا تھا یہی خُوئے وفا کا

جنہا کو بھی وفا سمجھو کہ حَرَت تھیں حق اُن سے کیا چُون وچرا کا

(ج) اس غزل کی ردیف لکھیے۔

(د) درج ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے:

خُوئے وفا - جَهَا - عفْوُ الٰہِ - بُجُول وچرا - تقاضا

(ه) درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے:

دعا-شیوه-مشتاق-عطاء-خطا

سوال: ۲: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

(الف) اس غزل کے شاعر کا نام ہے:

(۱) حَرَت (۲) چَراغُ اَحْسَن

(۳) تفضل احسن (۴) سید فضل احسن

(ب) غزل میں قافیہ ہمیشہ آتا ہے:

(۱) ردیف کے بعد (۲) ردیف سے پہلے


(۳) آخری شعر میں (۴) مقطعے میں

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (ج) مطلع کہتے ہیں غزل کے:            |   |
| (۱) آخری شعرو کو (۲) ہر شعرو کو      | (د) ”اہلِ رِضا“ کا مطلب ہے:                           |
| (۳) درمیانی شعرو کو (۴) پہلے شعرو کو | (۱) اللہ جن سے راضی ہو گیا (۲) جو اللہ سے راضی ہو گئے |
| (۳) رضا کار لوگ                      | (۳) جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں                         |
| (ه) تیرا کرم عطا کا ہے:              |   |
| (۱) چن (۲) دریا                      | (۱) چن (۲) موسم                                       |
| (۳) پھول                             | (۳) پھول  |

سوال: ۳: کالم (الف) کے الفاظ کو کالم (ب) کے لفظوں سے ملائیے:

(ب)	(الف)
خواہش مند	مُدَّ عَا
خواہش	طلب
قربان	عطاء
بخشش	شار
مقصر	مشتاق

سوال: ۲: اس غزل کے قافیہ کے ہم آواز دس الفاظ لکھیے۔



## جگر مراد آبادی

ولادت: ۱۸۹۰ء وفات: ۱۹۶۰ء

آپ کا پورا نام علی سکندر اور جگر تخلص تھا۔ والد کا نام مولوی علی نظر تھا۔ مراد آباد (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کو مغل بادشاہوں کے زمانے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ کے والد بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ اس لیے شاعری کا ذوق و شوق والد ہی سے ملا۔ شروع میں والد سے اصلاح لیتے رہے مگر بعد میں داغ دہلوی اور نسیم لکھنؤی جیسے بڑے شاعروں کے باقاعدہ شاگرد بنے۔

جگر اردو زبان کے ایک اہم شاعر تھے۔ آپ کی زبان سادہ اور اندازِ بیان میں ایک نیا پن ہے۔ آپ کی شاعری کا ایک خاص رنگ ہے۔ تصوف، اخلاق اور سیاسی شعور بلند درجے پر ہے۔ کلامِ نہایت پاکیزہ، شاستری اور پُر لطف ہے۔ ”داغ جگر، شعلہ طور اور آتشِ گل“، آپ کے شعری مجموعے ہیں۔



## سرگرمیاں

(۱) طلبہ اپنے پانچ گروپ بنائیں اور ہر گروپ ایک ایک شعر کی تحریح لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کرے۔

(۲) ہر طالب علم اپنی پسند کا ایک ایک شعر خوش خط لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کرے۔

### ہدایات برائے اساتذہ:

(۱) طلبہ کے خوش خط لکھنے ہوئے اشعار میں سب سے خوش خط لکھنے والے طالب علم کو انعام دیجیے۔ (۲) حضرت مولانا کے دیوان سے کوئی اور غزل لا کر طلبہ کو سنائیے۔



## غزل

حاصلات تعلم: یہ غزل پڑھ کر طلبہ: (۱) مجاز مرسل کی تعریف بیان کر سکیں۔  
 (۲) غزل سے لطف انداز ہو سکیں۔

## مش

سوال ۱: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے:

- (الف) غزل کے چوتھے شعر میں کیا بات کہی گئی ہے؟
- (ب) علم و حکمت کس وجہ سے اب علم و حکمت نہیں رہے ہیں؟
- (ج) اس غزل میں ”ہی نہیں“ کیا ہے؟
- (د) اس غزل کے مقطعے میں شاعر کا تخلص کیا ہے؟
- (ه) غزل کے دوسرے شعر کی وضاحت کیجیے۔

سوال ۲: خالی چکروں میں درست لفظ لکھیے:

- (الف) وہ محبت وہ ..... ہی نہیں
- (ب) صرف نقّالی ہے ..... کی جگہ
- (ج) سینہ ..... بھی تھا جس سے گُداز

سوال ۳: درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:

- (الف) علم و حکمت کے لیے انسان کو ہونا چاہیے:
- (۱) پاک طبیعت (۲) پاک حکمت (۳) پاک طبیت (۴) پاک صورت
- (ب) غزل کے مطابق زندگی کے لیے ضروری ہے:
- (۱) حرارت (۲) آدمیت (۳) حکمت (۴) صداقت
- (ج) اس غزل کی روایت ہے:
- (۱) عزت (۲) ہی نہیں (۳) کبھی نہیں (۴) حرارت

جب تک انساں پاک طبیت ہی نہیں  
علم و حکمت، علم و حکمت ہی نہیں

وہ محبت، وہ عداوت ہی نہیں  
زندگی میں اب صداقت ہی نہیں

سینہ آہن بھی تھا جس سے گُداز  
اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں

آدمی کے پاس سب کچھ ہے، مگر  
ایک تنہا آدمیت ہی نہیں

صرف نقّالی ہے مغرب کی جگہ  
شیر میں جب مشیرتیت ہی نہیں

(ماخوذ از: ”گلیاتِ جگر“)

(د) اس غزل میں شعر ہیں:

- |          |         |         |          |
|----------|---------|---------|----------|
| (۱) دو   | (۲) تین | (۳) چار | (۴) پانچ |
| (۱) بارہ | (۲) آٹھ | (۳) دس  | (۴) چھے  |

❖ آپ جگر مراد آبادی کا یہ شعر پڑھیے:

سینہ آہن بھی تھا جس سے گُداز— اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں  
 (اس شعر میں حضرت عمر رضہ کے سخت دل سینے یعنی دل کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ پہ  
 قبل از قبول اسلام رسول پاک ﷺ کی طرف غلط ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے  
 میں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور قرآن پاک کی آیت سن کر ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور  
 حضور پاک ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آتے ہیں۔)  
 اس شعر میں آپ کے سینے کو دل کہا گیا ہے۔ کیونکہ اگر گل کہہ کر جزو مرادی جائے تو اسے  
 مجاز مرسل کہتے ہیں۔

سوال ۵: آپ اپنی کتاب میں شامل غزلوں میں سے مجاز مرسل تلاش کیجیے۔

### سرگرمی

طلبہ غزل کے تمام قافية خوش خط لکھ کر کمربنڈ جماعت میں آؤ یاں کریں۔

**ہدایات برائے اساتذہ:**

- (۱) طلبہ کو غزل اور نظم کا فرق واضح کر کے سمجھائیے۔
- (۲) مزید چند مثالیں دے کر طلبہ کے ذہن میں مجاز مرسل کا تصور واضح اور پختہ کیجیے۔

## آدا جعفری

ولادت: ۱۹۲۳ء وفات: ۲۰۱۵ء



آدا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں تھا۔ بدایوں (ہندوستان) میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے بارہ سال کی عمر سے آدا بدایوں کے نام سے شاعری شروع کی۔ نور الحسن جعفری سے شادی کرنے کے بعد اپنا قلمی نام آدا جعفری رکھ لیا۔ اختر شیرانی سے شاعری میں اصلاح لی۔ نظم و نثر دونوں صنفوں میں اظہارِ خیال کیا مگر شاعری وجہہ شہرت بنی۔ انہوں نے آزاد نظمیں بھی کہیں اور جاپانی صنفِ سخن ہائیکو میں بھی نام کمایا، مگر وجہہ کمال غزل ہے۔ آپ نے متعدد قومی و بین الاقوامی اعزازات و تمغات حاصل کیے، جن میں قومی تمغا برائے حسن کا رکرداری بھی شامل ہے۔ آپ کا ادبی سرماہی ”میں ساز ڈھونڈتی رہی، غزل نما، سازِ سخن ہہانہ ہے، حرفِ شناسی، غزالاں تم تو واقف ہو، شہر درد، سفر باقی اور موسمِ موسم“، جیسے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ آپ کا انتقال کراچی میں ہوا۔



# مشق

**سوال ا:** درج ذیل سوالات کے جواب دیکھیے:

- (الف) ذیل کے الفاظ و تراکیب کا مفہوم بیان کیجئے:

حیران - لب بسته - دل گیر - غنچه - هم سفر - پیغام

دروبام - ساکھ - دشتِ جنوں

- (ب) ان اشعار کا مطلب بیان کیجیے:

ہونٹوں یہ کبھی اُن کے مرا نام ہی آئے

آئے تو سہی، برسرِ اِلزمَمْ ہی آئے

کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے

جس رہ سے جلے تیرے در و بام ہی آئے

- (ج) اس نظم میں قافیہ، ردیف، تخلص، مطلع اور مقطع کی نشان دہی کیجیے۔

- (د) اس غزل کا کون سا شعر آئے کو زیادہ پسند آتا اور کیوں؟ وجہ لکھئے۔

**سوال ۲:** درج ذلیل جوامات میں سے درست جواب پر (✓) کا نشان لگائے:

- (الف) شاعرہ کے نزدیک اُس کا نام آئے:

- ## (۱) کتاب میں      (۲) نئی وی سر

(۳) اخبار میں (۴) ہونٹوں پر

- شاعرہ نے اسے شعر میر گلہ کہا ہے:

- (۱) دنیا کے لوگوں سے (۲) دوستوں سے

(۳) شاعروں سے (۴) ہم سفر و را سے

- (٢٧) إِنَّمَا كُرْمَقَطْعَةً مِنْ شَاعِرٍ زَانَتْ خَلْصَهُ أَسْتَعْلَمُ

- (ز) (ز)

غزل

**حاصلاتِ علم:** یہ غزل پڑھ کر طلبہ: (۱) غزل سے مظہن ہو سکیں۔ (۲) اشعار میں متعدد عناصر کی نشان دہی کر سکیں۔ (۳) نئے الفاظ کے معنی لغت سے دلکش کر لکھ سکیں۔

ہونوں پہ کبھی اُن کے مرا نام ہی آئے  
آئے تو سہی، برسرِ إِلَزَام ہی آئے

حیران ہیں، لب بستے ہیں، دل گیر ہیں غنچے  
خوش بو کی زبانی ترا پیغام ہی آئے

کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سُفروں سے  
جس رہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے

تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا  
کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے

باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی  
دل میں اگر اندیشہ انعام ہی آئے  
(ماخوذ از: ”شہ درد“)

(د) اس غزل کی روایت ہے:

(۱) نام  $\tilde{\text{ا}}\text{دا}$

(۲) دروبام  $\text{د}\text{ر}\text{و}\text{ب}\text{ا}\text{م}$

(ه) خوشبو کی زبانی ترا:

(۱) انعام  $\text{ا}\text{ن}\text{ع}\text{ا}\text{م}$  ہی آئے

(۲) نام  $\text{ن}\text{ا}\text{م}$  ہی آئے

سوال ۳: درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیے:

پیغام- جذبہ- الراہم- انجام

### سرگرمی

طلبه اس غزل کے قافیے کے مطابق پانچ نئے الفاظ ایک چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آؤزیاں کریں۔

✿ ہائیکو، جاپانی صنف سخن سے اردو شاعری میں آئی جو کہ تین مصریون کی نشری نظم ہوتی ہے۔

ہدایات برائے اساتذہ:

(۱)  $\tilde{\text{ا}}\text{دا}$  جعفری کی ایک یادو غزلیں لا کر طلبہ کو سنائیے۔ (۲) اس غزل کے نئے الفاظ کے معنی طلبہ سے فرہنگ سے تلاش کرائے لکھوائیے۔



# فرہنگ



## اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تصنیفی زندگی: زندگی کا وہ حصہ جس میں	
انسان لکھتا پڑھتا ہے	اعانت: مدد
تنگ دل: برا مانے والا	اذن مانگا: اجازت مانگی
تنگ گیر: ستانے والا	او صاف: خوبیاں (وصفاتی جمع)
تاقمل: بچکچا ہٹ	احکام: ہدایات (حکم کی جمع)
تناول کرنا: کھانا کھانا	اظہارِ شکر: شکر یہادا کرنا
ٹوہ: کھون، تلاش	آل حضرت: حضور پاک "آل" بطور تقطیم ہے۔
خوش صحبت: وہ شخص جس کی باتوں میں جی لگے	برا کلمہ: بربی بات
خطاب: تعریفی لقب جو حکومت کسی شخص کو اس کی خدمت کے نتیجے میں عطا کرتی ہے	بلند پایہ: اعلیٰ مقام
خندہ جبیں: بہس مکھ	بینائی: نظر
خاطر شکنک: دل توڑنا	بے باکی: بے خوفی
درگز ر: معاف کرنا	بہ نفسِ نفسی: بذاتِ خود
دریافت: پوچھنا	باریابی: خدمت میں حاضری
دستور: رواج	پروارہ: پلا ہوا
دفعۃ: اچانک	پیشِ دستی: پہل کرنا
	تنگ گیر: زیادتی یا سختی کرنے والا
	تناول: کھانا کھانا

تخلص: شاعر کا ادبی نام جسے وہ شعر میں استعمال کرتا ہو	غول غال: اسم صوت (دودھ پینے پکے کی آواز)
تابہ مقدور: جہاں تک ممکن ہو	کونپل: تازہ نخاپودا (نفحی پتی)
تابہ مقدور: جہاں تک ممکن ہو	کٹھن گھڑی: مشکل وقت
تن پوری: اپنے آپ کا پیٹ بھر لینا	گھوارہ: پچے کے سلانے کا جھولا، پالنا
خودغرضی	لحد: قبر
ترغیب: رغبت، خواہش	لوری: وہ سریلے بول جو ماں پچے جو
تنزل: زوال (ترقی کی ضد)	سلانے کے لیے رات کو گا کر سناتی ہے
جوش مارنا: اُبھرنا، باہر نکل آنا	مہد: ماں کی گود
جاہے جا: ہر جگہ، جگہ جگہ پر، ہر مقام پر	منصف: بچ
چوکسی: چوکی داری، نگہبانی، نگرانی	مکتب: مدرسہ
حصلت: عادت	نیز: بھی
درہم برہم: تباہ و برباد کرنا	<b>قومی ہم دردی</b>
رگ و پے: نس اور پھٹا، مراد پورا جسم	اکتساب: کسب کرنا، سیکھنا
عجائبات: حیرت میں ڈالنے والی چیزیں	استحقاق: اخلاقی حق حاصل ہونا
غول: گروہ، جھنڈ	اشتراك: شرکت، تعاون
قدری خصلت: قدرتی عادت، فطری عادت	آگاہی: معلومات، کسی بات کی خبر ہونا
کھٹکا: خوف	پس: الہذا، اس لیے
مستحق: حق دار	پیاؤ بھائی: جانوروں کے پانی پینے کی جگہ
ماکل کرنا: توجہ دلانا، شوق دلانا	

رضی اللہ تعالیٰ عنہا: اللہ اس سے راضی ہوا (خاتون)	نرم خو: نرم مزاج رحم والے وقار و ممتازت: تہذیب، شان، سنجیدگی
راست گو: سیدھی سچی بات کہنے والا رُخ پھیرنا: منھ موڑنا	ہم رکاب: سوار کے ساتھ سواری پر سوار ہونے والا
زعفران: خشبودار پیتاں زوجیت: بیوی ہونا	<b>أمید کی خوشی</b>
سفرات: وفد	آتشِ محبت کو بھڑکانا: محبت میں جوش پیدا کرنا
شمس العلماء: عالموں کا سورج	آثار الصنادید: پرانی عمارتوں کے نشانات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ تعالیٰ حضور پاک اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرمائے	بے بے یار: جس میں دکھاونا ہو بے یار و دیار: طحن سے دور اور بے سہارا تقطیع: اجزاء میں تقسیم کرنا
صلہ رحمی: ماں کے رشتے کی وجہ سے کسی سے نیک سلوک کرنا	جواد الدولہ: دولت بخش والا خوش آئند: اچھے مستقبل والا خوش الحلق: اچھی آواز والا، سُریلی آواز والا
ضیافت: دعوت، مہمان نوازی	خوب گیری: کسی کی برائی کرنا
عیوب گیری: کسی کی برائی کرنا	قدم رنج: تشریف لانا
مرعوب: رعب میں آیا ہوا	ڈھیر: قبر کی معنی میں استعمال ہوا ہے
مقروض: جس پر قرض ہو	رالگنیاں (رالگ کی مؤنث): گیت، نغیت
ماخوذ: لیا گیا	سر و کار: واسطہ
	شاداب اور سر سبز: تازہ اور ہر ہر بھرا

منظر: نظر میں رکھتے ہوئے	تعظیم بجالانا: رتبے اور مرتبے کے مطابق
موضوعاتی مشاعرہ: وہ مشاعرے جن کا	عزت کرنا
پہلے سے موضوع دیا جائے	چہ جائے کہ: بہ جائے اس کے
منقطع: ختم ہونا	خردوں: چھوٹے (واحد خرد)
نوبت بہ نوبت: باری باری، ایک ایک	خودسر: ضدی، کہنا نہ ماننے والا
کر کے	نخلگی: ناراضگی، غصہ
ہم جنس: ایک جیسے، ایک قسم کے، مراد	خوشنودی: خوشی، رضامندی
انسان	دوہیاں: دادا کا گھر
رشته نانا	رعایت: لحاظ، خیال
امورات: معاملات (امور کی جمع)	سرش: باغی، حکم نہ ماننے والا
بجالانی: کہنے کے مطابق کرنا، انجام دینا	شفقت بزرگانہ: بزرگوں کی محبت
بانغ باغ ہونا: بہت خوش ہونا	صاحب اقبال: نصیب والا، خوش قسمت
بداقبال: بد نصیب	صدمه: دلی دکھ، رنج
بہبود: ترقی	غیر ذات: دوسرا ذاٹ والا
برخلافی کرنا: اختلاف کرنا، خلاف جانا	قرابت: خونی رشتہ
بہرہ یابی: خوش نصیبی	قانون ادب: ادب کا قانون، ادب کا
پیروی: کہنا ماننا	قاضہ
تنبیہ: نصیحت کرنا	قصص: قصے کی جمع
	فیض پرورش: پالنے کی برکت

نظریہ پاکستان	مسکل: وابستہ ہونا
باہمی اتفاق: آپس کے مشورے سے	مثل: مانند، موافق
تقریب میں پڑھی جائے	مقدم: لازم ہونا
تروتیج: رواج، شہرت، اشاعت	معین: مقرر، مددگار
تشکیل: مرتب کرنا	مثل: کہاوت، کہانی، مثال
زک: گھٹا، ٹکست	نام وری: شہرت، عزت
سپاس نامہ: توصیفی استحقاقیہ تقریر جو	نیستی: وجود نہ ہونا
مہمان کے اعزاز میں منعقد ہونے والی	ہستی: وجود، پیدائش
تقریب میں پڑھی جائے	نا گزیر: لازمی
عملی جامہ پہنانا: کسی کام کو پورا کرنا	نخیال: نانا کا گھر
طریقِ معاشرت: رہنے کا طریقہ	نشت و برخاست: بیٹھنا اٹھنا، مراد چلے
فلحی مملکت: کامیاب حکومت	چانا
کفر والحاد: لامہ بیت (اصولِ اسلام سے	یگانگت: قریبی رشتہ داری، اتحاد
انکار)	
قابل: روکنے، قبضہ کرنے والا	
مستحکم: مضبوط، پائدار، پختہ	
وسعت: پھیلاو، کشاورگی	

مقدور بھر: ذرہ برابر	سرکھسوٹ: سر کے بالوں کو نوچنا
مطلق: جو پابند نہ ہو، آزاد	شوخی: شرارہت
مختار کل: مالک (عہدے کے کا نام)	شستہ تقریر: صاف اور عمدہ گفتگو
میکا: ماں کا گھر انہ	فرد بشر: انسان، آدمی
میسر: سہولت حاصل ہونا	قباحت: خرابی، برائی
والی: حاکم، بادشاہ، مالک	قاب: تھامی
<b>بوجھی کا کی</b>	
اُبل پڑنا: غصے کا اظہار کرنا	کوٹھا: اوپر کا کمرہ
اشتها: بُھوک	کارخانے: گھر یا معااملات
آئج نہ آنا: نقسان سے محفوظ رکھنا	گھر سر پر اٹھانا: بہت شور غل مچانا، اودھم مچانا، ہنگامہ کرنا
آگ کا کنڈ: آگ کا گڑھا	لوٹدیاں: غلام، نوکر ایساں
بجنڈارا: باور پھی خانہ	لٹھو: عاشق ہونا، چاہنے لگنا
بسورنا: روئی شکل بنانا	لیر لیر کرنا: بلکڑے بلکڑے کرنا، دھجیاں اُڑا دینا
بے زبان: شکایت نہ کرنے والا، بے کس	مکتب بٹھانا: اسکول شروع یا قائم کرنا منھھ ہونا: حیثیت ہونا (محاورہ)

تبرک: برکت کے لیے تقسیم کی جانے والی چیز	اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا
تحصیل دار: صوبے دار (S.H.O)	استغفر اللہ: میں اللہ سے معافی چاہتی / چاہتا ہوں
تعلیم کرنا: تعلیم دلانا	اماک: ملکیت
تفسیف: کتاب لکھنا	أفتاد: بنیاد، دکھ، مصیبہ
تالیف: کتاب کے لیے مواد جمع کرنا	استانی گیری: استانی بننا، پڑھانے کو پیشہ بنانا
حلقة درس: درس کی محفل	آدمی بن جانا: مہد ب ہو جانا
خوش گزاری: خوشی خوشی زندگی گزارنا	بکھری: ایک خاص قسم کی گھوڑا گاڑی جس میں چار پیسے ہوتے ہیں
خونا خون ہونا: خون میں بھر جانا	بعد ازاں: اس کے بعد
ڈھائی دینا: فریاد کرنا، رورو کر شکایت کرنا	بگاڑا: کسی چیز کو خراب کرنا، بگاڑنا
دریغ نہ کرنا: کوتاہی نہ کرنا، کمی نہ چھوڑنا	بہو: بیٹی کی بیوی
داروغہ: غمار	پاکنی: ڈولی، ایک قسم کی سواری جسے دو افراد کا ندھوں پر لے کر چلتے ہیں
ڈھنڈورا: منادی، اعلان کرنا	
رنجیدہ خاطر: دکھا ہو ادل	
سوزنی: روئی دار، بھرا بیل بوئے والا کپڑا	
دالان: بڑا اور لمبا کمرہ جس میں کئی در ہوں	

ڈھول مجیرا: بجائی جانے والی پیتل کی  
چھوٹی کٹوریاں  
روکھادانہ: معمولی غذا  
روال: جسم کے اوپر کا باریک بال  
رقت آمیز: دُکھ بھرا  
رغبت: چاہت، خواہش  
سراسیمگی: ڈر، خوف  
سنبزابغ: دھوکا فریب دینا  
طفلانہ: بچوں کی طرح  
فاتر اعقل: پاگل  
کلیچاں ہونا: شدید صدمہ ہونا  
کھلانا: برالگنا  
کڑاہ: کڑاہی کا اسم مکبر

لذت آمیز: لذت بھرا، جس میں  
ذائقہ ہو  
سُدھا: امرت، پھولوں کا رس، شہد

شہید  
آرائش: سجاوٹ، سنگھار  
بُدستور: پہلے کی طرح، مسلسل  
رکھ رکھا وہ: تہذیب، تمیز  
شفقت: محبت، ہم دردی  
شرف: بلندی، مقام، عزت  
شفق: سورج نکلنے یا ڈوبتے وقت آسمان  
پر نظر آنے والی سرخی  
قوس و قزح: دھنک، بادلوں میں دکھائی  
دینے والے سات رنگوں کی کمان  
گوندھنا: ملانا، ملا کر باندھنا  
سیانا باوشاہ  
آنکھ کا تارا: چھپتا، عزیز، پیارا  
پایا: پنگ کا پایا  
چوپائے مال: گائے، بھینس، بھیڑ، بکری  
ونغیرہ  
روبرو: سامنے، موجودگی میں  
زچ کرنا: بیزار کرنا  
سکرات: موت کی سختی  
گتھی سلچانا: معتمہ حل کرنا، پیچیدہ باتوں کا حل نکالنا  
کھاٹ: چارپائی  
قسمت کا فصلہ کرنے کا عمل  
قرعہ اندازی: پانسے یا پرچی کے ذریعے

بھسم ہو جانا: ختم ہونا، فنا ہونا  
بھاٹ: گانا گانے والے  
پتل: بڑا ساتھال جس کو کھانے لگانے  
کے لیے استعمال کرتے ہیں  
تیلک: ہندوؤں میں ٹیکا لگانے کی رسم جو  
بیٹے کو گدی نشیں کرانے کے لیے انجام  
دیتے ہیں  
ٹھنڈائی: گرمی دور کرنے والی دوا  
ٹھوسنا: بے تحاشا کھانا  
جم غیر: بھیڑ، رش  
پشمِ خیال: تصور  
چھاتی پر سوار ہونا: چڑھائی کر دینا  
(محاورہ)  
داغ دے جانا: دُکھ دے جانا  
درگت: بری حالت

## نام دیومالی

استعداد: فطری قابلیت، صلاحیت	دُکھ: مصیبت
افداد: ناگہانی آفت، مصیبت	ستایش: تعریف و توصیف
احاطے: چار دیواری	سیوا: خدمت
آخری آرامگاہ: قبر (مرنے کے بعد	شاداب: سرسری، ہرا بھرا
آخری جگہ)	صلہ: اجر یا انعام
بشاشت: تازگی و فرحت	فیض: فائدہ
بیسوں: بہت سے (محاورہ)	فائز: نافذ رہنے والا
بساط: حیثیت، صلاحیت، اوقات	قدرداں: قدر کرنے والا
پھولتے پھلتے: بڑھتے ہوئے	قلت: کمی
پرکھنا: آزمانا	کارگزاری: کام انجام دینا
تفویض: سپردگی، حوالے کرنا	کھنچ تان کر: بڑی مشکل سے
تلف: بر باد	گدلا: گاد والا، مٹی والا
جھلک: جھنا، گروہ، بھندڑ	مستعد: چاق و چوبند
جانچ پڑتاں: پوچھ چکھ کرنا	ودیعت: اللہ کی عطا کردہ صلاحیت
چجن: باغ کا ایک ٹکڑا	ہزار جتن: ہزار طریقے
درجہ کمال: اعلیٰ مقام	ہم عصر: ایک دور کے لوگ
ڈھونڈھو کر لانا: بھر بھر کر لانا	ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے: کچھ نہ کرنا (محاورہ)

راز فاش کرنا: راز کھول دینا  
 رکایاں: وہ برتن جس میں سالن نکالتے  
 ہیں، پلیٹ  
 زاویے: کونے، گوشے  
 سرعت: تیزی، جلدی  
 سادہ لوحی: سادگی  
 ظروف: برتن (ظرف کی جمع)  
 فی البدیہہ: فوراً، ٹھہرے بغیر  
 موصول: وصول پایا  
 نسخ: وہ پرچہ جس میں مریض کے  
 لیے دوائیں لکھی جاتی ہیں  
 وضع قطع: شکل و صورت  
 وضع داری: باوقار طریقے

ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری  
 اصطبل: گھوڑوں کو باندھنے کی گلہ  
 اُکڑوں بیٹھنا: پیروں پر بیٹھنا  
 پرفضا: بارونق  
 تشخیص: مرض پہچاننا  
 ترجیح: اولیت دینا  
 حکمت: دانائی  
 چوکی دار: محافظ، نگہبان  
 خیرسگالی: بھلانی چاہنا  
 خیرسگالی: اچھے جذبات کا پیغام  
 خلل: رخنہ ڈالنا  
 خندہ پیشانی: مسکراتا ہوا چہرا  
 دور افادہ: لمبے فاصلے پر موجود/ واقع  
 ڈاک بگلا: سرکاری رہائش  
 روزافزوں: روزانہ بڑھنے والا

دارالسرور: خوشی کی جگہ	قبل مسیح: حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے
ڈاک مشی: ڈاک خانے کا افسر	معروف: مشہور، پہچانا ہوا
سوٹ: پانی کی شاخ	مخلطات: ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں
عبدث: بے کار، فضول	نقاشی: درودیوار یا لکڑی وغیرہ پر بیل
منا: راضی ہونا، مان جانا	بوٹے بنانے کا کام
مرغوب: پسندیدہ	نوادرات: قدیم نایاب اشیا
وسواس: وسوسے کی جمع، شک، گمان	ہنستی: ستاروں کا علم
ہر کارہ: ملازم، نوکر	
حمد	
آئین ایجاد: بننے کا اصول، تخلیق کا قاعدہ	<h3>غالب کے خطوط</h3>
بن تیل: بغیر تیل کے	اطراف و جوانب: ارد گرد، ہر طرف، ہر
بہم: آپس میں	جانب
بیشی کی: اضافہ اور کمی	بخل: کنجوں
تصور: دھیان، خیال	بیر گ: بغیر ٹکٹ کے
تقدیر: قدرت کے اصول، قسمت	بھروسہ: سہارا
سکت: طاقت	تر ڈو: فکر، پریشانی
عالم: دنیا	
کلیات: کل کی جمع	

اوپر	ارسطو: یونانی فلسفی
پٹاری: بیدیا بانس کی بنی ہوئی چھوٹی	آثار قدیمہ: پرانے زمانے کی چیزیں
صدرو تجی جس میں پان رکھتے ہوں	تمدن: شہری بودو باش، سماجی زندگی
جان ہلکان ہونا: اپنے آپ کو تھکانا	دستاویز: سرکاری ریکارڈ
حرج: نقصان	سیاح: دنیا بھر کی سیر کرنے والا
خاتمه بالآخر: اچھا انجام	طول البلد: زمین کے گردشمال سے جنوب
سلب ہونا: چھن جانا	کی طرف عمودی خطوط
سنجدہ ظرافت: باوقار مزانج	ظروف سازی: مٹی یا دھات کے بتن
صلاح کار: مشیر، مشورہ دینے والا	بنانا
ماماؤں: کام کرنے والی عورتیں، ملازمہ	عرض البلد: کسی مقام اور خط استوا کے ما بین فاصلے کے افقی خطوط
کچھ ورق تاریخ سے	فلکیات: سیاروں اور ستاروں کا علم
اعزازات: اعزاز کی جمع	قبل دید: دیکھنے کے قابل، جنہیں شوق
افلاطون: قدیم یونانی فلسفی کا نام، مراد	اور دل چپسی سے دیکھا جائے
بہت سمجھدار	قلمی نسخہ: ہاتھ کی لکھی ہوئی قدیم تحریریں
ادوار: دور کی جمع	

کھپت: استعمال میں آ جانا	فقة: آگہی، شرعی احکام کا علم
کھیل: معمولی کام، آسان کام	قاسم کوثر: حوضِ کوثر سے امتیوں کو پانی تقسیم کرنے والے
کششِ باہمی: آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت	کان مرؤٰت: بہت سخنی، بہت فیاض
مجاہ: ہمت	منطق: گویائی، بات چیت
لغت	مرسل داور: انصاف کرنے والے کا بھیجا ہوا
آیہ رحمت: اللہ کی رحمت کی نشانی	موس آدم: انسانیت کا ہم دم
پیشہ: دن رات کا کام، ہر وقت کی	محمد: محمد کی جمع
مصروفیت	مالک عقلی: آخرت کے ختار
تارک: ترک کرنے / چھوڑ دینے والے	مملو: بھرا ہوا، لبریز
تصوف: وہ علم جس سے صفائی قلب	نیر: روشن کرنے والا
حاصل ہو	نیر اعظم: سب سے بڑا، روشن ستارہ
سرور: سردار، بادشاہ	ورود: پڑھنا، بار بار دہرانا، ہر وقت کا عمل
شافعِ محشر: روزِ حشر خدا کے حضور سفارش کرنے والے	ہم دم: رفیق، دوست
فلسفہ: وہ علم جو اشیا کی ماہیت کے متعلق ہو	ہادی: ہدایت پہنچانے والے

## برسات کا تماشا

اساڑھ: ہندی کلینڈر کا تیسرا مہینا،  
برسات کا مہینا  
پیپرها: کویل جیسا خوش آواز پرندہ  
تماشا: نظارہ، سرگرمی  
جھڑی لگانا: مسلسل بر سنا  
چھوائے: چھپرڈ لوانا  
خورشید: سورج  
خاصے: ایک قسم کا مخصوص کھانا  
رعد: بادل کی گرج  
زر: پیسہ، دولت  
قادص: پیغام لانے لے جانے والا  
کوہ و دشت: پہاڑ اور صحراء  
کوکنا: کویل کا آواز زنالنا  
کوکلا: ہدہد (پرنہ)  
میکھ: گھٹا، بادل، بارش  
گنگر: بستی

## دنیاے اسلام

عربی: عربی  
ارزال: ستا  
امتیازِ رنگ و خون: رنگت اور نسل کی بنیاد پر  
فرق کرنا  
پہباں: چھپا ہوا  
حرم: مکہ، مدینہ  
خرگاہی: بہت بڑا خیمہ  
دانائے راز: شکل باتوں کو سمجھ جانے والا،  
راز کا جاننے والا  
رابط و ضبط: رشتہ، تعلق، میل جوں  
سووز و ساز: غم اور خوشی، دُکھ سکھ  
گاز قبیچی  
کما حقہ: جو کہ اس کا حق ہے  
کاشغر: چین کا شہر

ملکت بیضا: مسلمان	مقدم: آگے، اوپر
ملک: پوری دنیا کے مسلمان	نیل: ( مصر کا دریا) دریائے نیل
والا گھر: قیمتی موتنی	
<b>سر راہ شہادت</b>	
بسیل: براہ	پایاں: حد، انتہا
تبسم: مسکراہٹ	جلالا پانا: چک اٹھنا
حسن نیت: ارادے کی نیکی	خجستہ فام: برکت والا، مبارک
روئے زیبا: حسین چہرہ	کندن: خالص سونا

رقت: آنسو نکلنے کی کیفیت	
صداقت: سچائی	
مشیت: اللہ کی مرضی	
وفور: کثرت	
<b>گرمی کی شدت</b>	
آفتاب: سورج	
آب روائ: بہتا پانی، مراد دریا، نہر	
آبلے: چھالے، پچھولے کی کھال	
آہو: ہرن	
آب روائ: بہتا پانی	
برگ و بار: پتے اور پھل	
تاب و تب: شدید گرمی، حدت، گرمی	
تپ: بخار (مراد شدید گرمی)	
چنار: ایک بے شر درخت	
حباب: بلبلے	

حدّت: گرمی، تپ	مردم: لوگ، انسان
خس خانہ مژہ: آنکھوں کی پلکیں	مذوق: وہ جسے دق کا مرض ہو گیا ہو
دل سرد ہونا: ولولہ اور جوش ختم ہونا	(ٹی بی)
زیست: زندگی، حیات	مکدر: میلا
شاخ باردار: شاخ جو پھل پھول سے	نہر علقہ: نہر فرات
لدی ہو، ہری بھری شاخ	خل: کھجور کا درخت
عرق: پسینہ	جو یے جیوے پاکستان
کھولنا: پانی کا ابلنا	پھلواری: پھولوں کی کیاری
کاشا ہونا: سوکھ جانا	پکھہ بلانا: پر پھٹ پھڑانا، پرواز کرنا
کچھار: شیر کے رہنے کی جگہ	جو یے: زندہ رہے
گُردوں: آسمان	حُجْرَه: ہجوم، بھیڑ
لُو: شدید گرم ہوا	جھیل گئے: برداشت کر گئے
منظرنگاری: منظر کشی	سر بکھرنا: خوبصورت آوازیں سمجھیرنا،
مرشیہ نگاری: مرے ہوئے انسان کی یاد	گیت گانا
میں شعر کہنا	من پنچھی: دل

غزل میر	کرکٹ اور مشاعرہ
بن: بغیر	ایم (Aim): مقصد، ہدف
بے خود کرنا: مدھوش، خود سے بے خبر	ابہام: واضح نہ ہونا
ہو جانا	آنٹری: ناتج بھرپور کار، بے سلیقه
توکل: یقین	اہل نظر: بصیرت والے، عقل والے
جبیں: پیشانی	بے جائے خود: اپنی جگہ پر
خدائے نجخن: شاعری میں سب سے	ریاض: مسلسل مشق
بلند مقام والا	دامغ چاٹنے: فضول با تین
درویش صفت: درویش جیسی خوبیوں والا	ستم ظریفیاں: طنز و مزاح کی باتیں
سوائیں حیات: ساری زندگی کی کہانی	شعر گوئی: شعر کہنا
قفاعت: تھوڑی چیز پر راضی ہونا	صدر نشیں: صدر یا بڑا بن کر بیٹھنے والا
صدار کرنا: آواز لگانا	مزاح نگار: مزاحیہ تحریر لکھنے والا
فقیرانہ: فقیر کی مانند	متشراعر: جھوٹا شاعر، نام نہاد شاعر
وفا: وعدہ پورا کرنے کا عمل	

## غزل غالب

پیراہن:لباس  
جیب:دامن  
 حاجت رو:سلامی کی ضرورت  
 دیرالملک:شاہی سیکریٹری (عہد مغلیہ کا ایک خطاب)  
 طاقتِ گفتار:بولنے کی طاقت  
 عفو:بچشش  
 مصاحب:ساتھی، دوست  
 مصاحب:ساتھی، ساتھ بیٹھنے والا  
 نجم الدولہ:حکومت کا ستارہ (انگریزوں کا سرکاری خطاب)  
 نظام جنگ:جنگ کا صلاح کار

## غزل آتش

اندوہ:ملاں، رنج  
 ازره قد رانی:قد رکرنے کی غرض سے  
 خلیق انسان:با اخلاق انسان  
 چاشنی:بیٹھا پن  
 چرماں:ذکھ، دردنا امیدی، محرومی  
 دہن:منجھ  
 سر پرست:نگراں  
 گماں:شک، شبہ، اندریشمہ ہونا  
 گور سکندر:سکندر بادشاہ کی قبر  
 قبردارا:ایک بڑے حاکم دارا کی قبر  
 قصیدہ:وہ نظم جس میں تعریف کی گئی ہو (خصوصاً بادشاہوں کی)  
 منکسر المزاج:عاجزانہ مزاج  
 مزے لوٹنا:مزے اڑانا (محاورہ)

## غزل ظفر

اُجڑے دیار:ویران بستی  
 با غبان:مالی  
 داغ دار:داغ والا، زخمی  
 دیوان:اشعار کو یکجا کرنا، شعری مجموعہ  
 صیاد:شکاری  
 عالم ناپائدار:فانی دنیا  
 گوئے یار:دوست کی گلی (مرا داپنے وطن میں)  
 گلہ:شکوہ، شکایت

## غزل حسرت

اہل رضا: راضی رہنے والے  
 آبرو: عزت  
 تنوع: قسم کا ہونا  
 خُو: عادت  
 چون و چرا: سوال و جواب، بحث  
 حامل: بوجھا ٹھانے والا  
 دل: کتابیہ خواہشیں، ارمان  
 رئیس المختصر لین: غزل خوانوں کے سردار  
 شیوه: طور طریق، ڈھنگ، انداز  
 طلب: ضرورت  
 طاقتِ گفتار: بولنے کی طاقت  
 قائل: راضی ہونا  
 مدعایا: مطلب، غرض  
 نکاتِ تختن: شاعری کی باریکیاں

## غزل آداجیفڑی

اندیشہ: خطرہ  
اندیشہ انجام: نتیجے کی فکر، انجام کا ڈر  
بر سر الزام: الزام لگانے کی غرض سے  
بر بستہ: جسم سمیٹھے ہوئے، بند  
ساکھ: اعتبار، وقار  
دروبام: گھر  
دل گیر: رنجیدہ، مغموم  
قلمی نام: وہ فرضی نام جو کوئی ادیب اپنی  
تصانیف میں اختیار کر لیتا ہے  
ہائکو: تین مصراعوں کی نظم (جاپانی  
شاعری)

## غزل جگر

آدمیت: انسانیت، عقل و شعور  
بلند پایہ: اعلیٰ مقام  
پاک طینت: نیک سیرت  
شاہستہ: لاائق، مہذب  
سینہ آہن: لو ہے کا سینہ (مرا دخخت دل،  
سنگ دل)  
گداز: نرم  
نقالی: دوسروں کی نقل کرنا

## کتابیات

”محمد خاتم النبیین“، امیر میانی  
”کلیاتِ نظیر اکبر آبادی“  
”کلیاتِ اقبال“  
شاہ نامہ اسلام  
کلیاتِ آنیس  
عائی جی کی نغمہ نگاری  
کلیاتِ دلاور فکار  
کلیاتِ میر  
دیوان آتش  
دیوان غالب  
دیوان ظفر  
کلیاتِ حرست  
کلیاتِ جگر  
شہر درد

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد دوم  
مضامین سرسید  
”کلیاتِ نشر حآلی“، جلد دوم  
مقالاتِ مولانا محمد حسین آزاد، جلد دوم  
مراءۃ العروس  
”پریم چند کے منتخب افسانے“  
لوک کہانیاں: حصہ اول مترجم: ڈاکٹر سعدیہ شیم آرا سرتاج  
منٹی کادیا  
”چند ہم عصر“  
”شہاب نامہ“  
”مجموعہ مرزا فرحت اللہ بیگ“، جلد سوم، مضامین  
”لندن اور کیمبرج“  
” غالب کے خطوط“، غلیق احمد  
”کلیاتِ اسماعیل میر ٹھی

